

# مصباح الصرف

ساجد الهاشمي

اهل السنة بليكيشنز

## جميع الحقوق بحق المصنف محفوظة

الكتاب	:	مصباح النحو
المرتب	:	ساجد الهاشمى
النظر الثانى	:	رياض احمد سعيدى
صفحات	:	
الطابع	:	
الناشر	:	
الثمان	:	

# پسِ منظر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلامی تعلیمات کا بنیادی سرچشمہ **قرآن حکیم** اور **احادیث طیبہ** ہیں۔ یہ دونوں ہی عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان کو سمجھنے بغیر قرآن و احادیث کو سمجھنا ناممکن ہے۔ عربی زبان بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ اسے مکمل طور پر سمجھنے کے لئے بہت سارے علوم سے آگاہی ضروری ہے۔

**علم الصرف** اور **علم النحو**، دونوں وہ بنیادی علوم ہیں جو عربی زبان کے سمجھنے میں کلیدی حیثیت کے حامل ہیں۔ ان دونوں علوم کے بنیادی امور پر اردو میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی مزید کتاب کی ضرورت نہ تھی۔ یہ کتاب صرف اس مقصد کے لئے ترتیب دی گئی ہے کہ انتہائی حسن ترتیب سے صاف صاف یہ بنیادی امور طلباء تک پہنچائے جائیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جس قدر عبارت صاف صاف اور جدا جدا ہوگی، اسی قدر اس کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہوگا۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس عاجزانہ کاوش میں جہاں غلطی پائیں، احقر کو آگاہ فرمائیں۔ احقر ان کے شکر یہ کہ ساتھ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دے گا۔ **اللہ تعالیٰ** تاجدار کائنات **صلی اللہ علیہ وسلم** کے تصدق سے اس خدمت قرآن کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

خادم العلم والعلامہ

ساجد الهاشمی

# علم الصرف

## تعریف

علم صرف وہ علم ہے جس سے  
 صیغوں کی پہچان حاصل ہو،  
 لفظوں کو گردانے کا طریقہ معلوم ہو،  
 اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہو۔

## موضوع

کلمہ گردان ہونے کے اعتبار سے

## فائدہ

الفاظ کو صحیح پڑھنا۔

# ضروری اصطلاحات

## حَرَكَتٌ اور مُتَحَرِّكٌ

زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں اور جس حرف پر ان میں سے کوئی حرکت ہو، اُسے مُتَحَرِّكٌ کہتے ہیں

## ضَمٌّ اور مَضْمُومٌ

پیش ( ُ ) کو ضمہ کہتے ہیں اور جس حرف پر پیش ہو، اُسے مضموم کہتے ہیں۔  
مثلاً: ضَرْبٌ میں ض ، فُتِحَ میں ف اور نُصِرَ میں ن مضموم ہے۔

## فَتْحٌ اور مَفْتُوحٌ

زبر ( َ ) کو فتحہ کہتے ہیں اور جس حرف پر زبر ہو، اسے مفتوح کہتے ہیں۔  
مثلاً: ضَرْبٌ میں ب ، فُتِحَ میں ح اور نُصِرَ میں ر مفتوح ہے۔

## كُسْرٌ اور مَكْسُورٌ

زیر ( ِ ) کو کسرہ کہتے ہیں اور جس حرف پر زیر ہو، اسے مکسور کہتے ہیں۔  
مثلاً: ضَرْبٌ میں ر ، فُتِحَ میں ت اور نُصِرَ میں ص مکسور ہے۔

## تَنْوِينٌ اور مُنَوَّنٌ

دو پیش، دو زبر اور دو زیر ( ً ٌ ٍ ) کو تنوین کہتے ہیں اور جس حرف پر ان تینوں میں سے کوئی

ایک ہوا سے منون کہتے ہیں۔

**مثلاً:** ضَرْبٌ میں ب، فُتْحًا میں ح اور نَصْرٌ میں ر منون ہیں۔

## تَشْدِيدٌ اور مُشَدَّدٌ

شد (س) کو تشدید کہتے ہیں اور جس حرف پر شد ہو، اُسے مشدد کہتے ہیں۔

**مثلاً:** مُصَوِّرٌ میں و، مُزَمَّلٌ میں ز اور م مشدد ہیں۔

## سُكُونٌ اور سَاكِنٌ

حركات نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں اور جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں

**مثلاً:** ضَرْبٌ میں ر، فُتْحًا میں ت اور نَصْرٌ میں ص ساکن ہیں۔

## صِغَةٌ

لفظ کو کہتے ہیں۔

## واحد

وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے۔

رَجُلٌ کا معنی ایک مرد ہے لہذا رَجُلٌ واحد ہے۔

## تَشْبِيهٌ

وہ اسم ہے جو دو افراد پر دلالت کرے۔

رَجُلَانِ کا معنی دو مرد ہے لہذا رَجُلَانِ تشبیہ ہے۔

## جمع

وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے۔  
رِجَالٌ کا معنی دو سے زیادہ مرد ہے۔ لہذا رِجَالٌ جمع ہے۔

## تانیث کی تین نشانیاں ہیں ۔

**گول تاء (ة)** مثلاً هِرَّةٌ (بلی)، نَاقَةٌ (اونٹنی)، اِمْرَأَةٌ (عورت)، عُرْفَةٌ (کمرہ)  
**الف ممدودہ (آء)** بصَحْرَاءُ (صحرا)، سَوْدَاءُ (سیاہ)، بَيْضَاءُ (سفید)  
**الف مقصورہ (ی)**: كُبْرَى (بڑی)، صُغْرَى (چھوٹی)، وُسْطَى (درمیانی)  
یہ تینوں نشانیاں ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہوتی ہیں۔

## مذکر

وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو۔  
مثلاً: رَجُلٌ (مرد)، جَمَلٌ (اونٹ)

## مؤنث

وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت ہو۔  
مثلاً: اِمْرَأَةٌ (عورت)، نَاقَةٌ (اونٹنی)

## غائب

وہ ہے جس سے بات نہ کی جائے۔  
مثلاً: ضَرَبَ زَيْدٌ (زید نے مارا) میں زید غائب ہے۔

## حاضر

وہ ہے جس سے بات کی جائے۔

**مثلا:** ضَرَبْتُ بَكْرًا (تو نے بکر کو مارا) میں نَ، حاضر ہے۔

## متکلم

وہ ہے جو بات کرے۔

**مثلا:** ضَرَبْتُ بَكْرًا (میں نے مارا) میں تُ، متکلم ہے۔

**زمانہ کی تین قسمیں ہیں۔**

## ماضی

وہ زمانہ ہے جو گزر چکا ہو۔

**مثلا:** اَمْسَ (کل گزشتہ)

## حال

وہ زمانہ ہے جو موجود ہو۔

**مثلا:** اَلْيَوْمَ (آج)

## مستقبل

وہ زمانہ ہے جو آنے والا ہو۔

**مثلا:** اَلْغَدَ (کل آنے والا)



## فعل ماضی

وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے۔

مثلاً: ضَرَبَ (اس ایک مرد نے میں مارا)

## فعل مضارع

وہ فعل ہے جو بتائے کہ کام موجود زمانہ میں ہو رہا ہے یا آنے والے زمانہ میں ہوگا۔

مثلاً: يَضْرِبُ (وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا)

## فعل امر

وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو۔

مثلاً: اِضْرِبْ (تو مار)

## فعل نہی

وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو۔

مثلاً: لَا تَضْرِبْ (تو نہ مار)

## فاعل

کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔

## مفعول

جس پر کام واقع ہوا سے مفعول کہتے ہیں۔

**مثلاً:** ضَرَبَ زَيْدٌ بَكْرًا (زيد نے بکر کو مارا)

اس میں ضَرَبَ فعل، زَيْدٌ فاعل اور بَكْرًا مفعول ہے۔  
ایک فعل کے مفعول ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔

## فعل معروف

وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔

**مثلاً:** ضَرَبَ زَيْدٌ بَكْرًا (زيد نے بکر کو مارا) میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے۔

## فعل مجہول

وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ فعل مجہول کی جس کی طرف نسبت ہو اُسے نائب فاعل کہتے ہیں۔

**مثلاً:** ضَرِبَ بَكْرٌ (بکر کو مارا گیا) میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے۔

## فعل مثبت

وہ فعل ہے جو کام کا ہونا بتائے۔

**مثلاً:** ضَرَبَ زَيْدٌ بَكْرًا (زيد نے بکر کو مارا)

## فعل منفی

وہ فعل ہے جو کام کا نہ ہونا بتائے۔

**مثلاً:** مَا ضَرَبَ زَيْدٌ بَكْرًا (زيد نے بکر کو نہیں مارا)

## فعل لازم

وہ فعل ہے جسے صرف فاعل کی ضرورت ہو۔

مثلاً: خَرَجَ زَيْدٌ (زید نکلا) دَخَلَ بَكْرٌ (بکر داخل ہوا)

## فعل متعدی

وہ فعل ہے جسے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔

مثلاً: نَصَرَ خَالِدٌ رَشِيدًا (خالد نے رشید کی مدد کی)

## فاء ، عین اور لام کلمہ

علماء صرف نے فاء، عین، لام کو میزان بنایا ہے۔ جو حرف فاء کے مقابل ہوگا، اُسے فاء کلمہ کہتے ہیں۔ جو حرف عین کے مقابل ہوگا، اُسے عین کلمہ کہتے ہیں اور جو حرف لام کے مقابل ہوگا اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔

مثلاً: نَصَرَ کا وزن فَعَلَ ہے۔ نون، فاء کلمہ ہے، صاد، عین کلمہ ہے اور راء، لام کلمہ ہے۔

## حروف اصلی

وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین یا لام کلمہ کی جگہ ہوں، انہیں حروف اصلی کہتے ہیں۔

## حروف زائد

وہ حروف جو وزن کرتے وقت فا، عین یا لام کلمہ کی جگہ نہ ہوں،

انہیں حروف زائد کہتے ہیں۔

## فعل مثبت ماضی معروف

ترجمہ	صیغہ	فعل ماضی
اُس ایک مرد نے مارا۔	واحد مذکر غائب	صَرَبَ
اُن دو مردوں نے مارا۔	تشبیہ مذکر غائب	صَرَبَا
ان سب مردوں نے مارا۔	جمع مذکر غائب	صَرَبُوا
اُس ایک عورت نے مارا۔	واحد مؤنث غائب	صَرَبَتْ
اُن دو عورتوں نے مارا۔	تشبیہ مؤنث غائب	صَرَبَتَا
اُن سب عورتوں نے مارا۔	جمع مؤنث غائب	صَرَبْنَ
تو ایک مرد نے مارا۔	واحد مذکر حاضر	صَرَبْتُ
تُم دو مردوں نے مارا۔	تشبیہ مذکر حاضر	صَرَبْتُمَا
تُم سب مردوں نے مارا۔	جمع مذکر حاضر	صَرَبْتُمْ
تو ایک عورت نے مارا۔	واحد مؤنث حاضر	صَرَبْتِ
تُم دو عورتوں نے مارا۔	تشبیہ مؤنث حاضر	صَرَبْتُمَا
تُم سب عورتوں نے مارا۔	جمع مؤنث حاضر	صَرَبْتِنَّ
میں نے مارا۔	واحد متکلم	صَرَبْتُ
ہم نے مارا۔	جمع متکلم	صَرَبْنَا

صَرَبَ کافعال اگر اسمِ ظاہر نہ ہو تو اس کافعال، هُوَ اس کے اندر چھپا ہوگا۔

اسی طرح صَرَبْتِ کافعال اگر اسمِ ظاہر نہ ہو تو اس کافعال، هِيَ اس کے اندر چھپا ہوگا۔

## فعل مثبت ماضی مجہول

ترجمہ	صیغہ	فعل ماضی
وہ ایک مرد مارا گیا۔	واحد مذکر غائب	ضُرِبَ
وہ دو مرد مارے گئے۔	تشبیہ مذکر غائب	ضُرِبَا
وہ سب مرد مارے گئے۔	جمع مذکر غائب	ضُرِبُوا
وہ ایک عورت ماری گئی۔	واحد مؤنث غائب	ضُرِبَتْ
وہ دو عورتیں ماری گئیں۔	تشبیہ مؤنث غائب	ضُرِبَتَا
وہ سب عورتیں ماری گئیں۔	جمع مؤنث غائب	ضُرِبْنَ
تُو ایک مرد مارا گیا۔	واحد مذکر حاضر	ضُرِبْتُ
تُم دو مرد مارے گئے۔	تشبیہ مذکر حاضر	ضُرِبْتُمَا
تُم سب مرد مارے گئے۔	جمع مذکر حاضر	ضُرِبْتُمْ
تُو ایک عورت ماری گئی۔	واحد مؤنث حاضر	ضُرِبْتِ
تُم دو عورتیں ماری گئیں۔	تشبیہ مؤنث حاضر	ضُرِبْتُمَا
تُم سب عورتیں ماری گئیں۔	جمع مؤنث حاضر	ضُرِبْتُنَّ
میں مارا گیا۔	واحد متکلم	ضُرِبْتُ
ہم مارے گئے۔	جمع متکلم	ضُرِبْنَا

ثَلَاثِي مُعْجَرَّدُ کے ابواب کے فعل ماضی مجہول کافاء کلمہ ہمیشہ مضموم ہوتا ہے

اور عین کلمہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔

## فعل منفی ماضی معروف

فعل ماضی	صیغہ	ترجمہ
مَاَصْرَبَ	واحد مذکر غائب	اُس ایک مرد نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبَا	تثنیہ مذکر غائب	اُن دو مردوں نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبُوْا	جمع مذکر غائب	اُن سب مردوں نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبَتْ	واحد مؤنث غائب	اُس ایک عورت نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْتَا	تثنیہ مؤنث غائب	اُن دو عورتوں نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْنَ	جمع مؤنث غائب	اُن سب عورتوں نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْتُ	واحد مذکر حاضر	تو ایک مرد نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْتُمَا	تثنیہ مذکر حاضر	تُم دو مردوں نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْتُمْ	جمع مذکر حاضر	تُم سب مردوں نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْتِ	واحد مؤنث حاضر	تو ایک عورت نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْتُمَا	تثنیہ مؤنث حاضر	تُم دو عورتوں نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْتُنَّ	جمع مؤنث حاضر	تُم سب عورتوں نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْتُ	واحد متکلم	میں نے نہیں مارا۔
مَاَصْرَبْنَا	جمع متکلم	ہم نے نہیں مارا۔

ما کا معنی نہیں ہے اور اسے ما نافیہ کہتے ہیں۔

## فعل منفی ماضی مجہول

ترجمہ	صیغہ	فعل ماضی
وہ ایک مرد نہیں مارا گیا۔	واحد مذکر غائب	مَا ضُرِبَ
وہ دو مرد نہیں مارے گئے۔	تشبیہ مذکر غائب	مَا ضُرِبَا
وہ سب مرد نہیں مارے گئے۔	جمع مذکر غائب	مَا ضُرِبُوا
وہ ایک عورت نہیں ماری گئی۔	واحد مؤنث غائب	مَا ضُرِبَتْ
وہ دو عورتیں نہیں ماری گئیں۔	تشبیہ مؤنث غائب	مَا ضُرِبَتَا
وہ سب عورتیں نہیں ماری گئیں	جمع مؤنث غائب	مَا ضُرِبْنَ
تُو ایک مرد نہیں مارا گیا۔	واحد مذکر حاضر	مَا ضُرِبْتُ
تُم دو مرد نہیں مارے گئے۔	تشبیہ مذکر حاضر	مَا ضُرِبْتُمَا
تُم سب مرد نہیں مارے گئے۔	جمع مذکر حاضر	مَا ضُرِبْتُمْ
تُو ایک عورت نہیں ماری گئی۔	واحد مؤنث حاضر	مَا ضُرِبْتِ
تُم دو عورتیں نہیں ماری گئیں۔	تشبیہ مؤنث حاضر	مَا ضُرِبْتُمَا
تُم سب عورتیں نہیں ماری گئیں	جمع مؤنث حاضر	مَا ضُرِبْتُنَّ
میں نہیں مارا گیا۔	واحد متکلم	مَا ضُرِبْتُ
ہم نہیں مارے گئے۔	جمع متکلم	مَا ضُرِبْنَا

فعل معروف کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے

اور فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔

فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے جب کہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے۔

## فعل مثبت مضارع معروف

ترجمہ	صيغہ	فعل مضارع
وہ ایک مرد مارتا ہے۔	واحد مذکر غائب	يَضْرِبُ
وہ دو مرد مارتے ہیں۔	تثنيه مذکر غائب	يَضْرِبَانِ
وہ سب مرد مارتے ہیں۔	جمع مذکر غائب	يَضْرِبُونَ
وہ ایک عورت مارتی ہے۔	واحد مؤنث غائب	تَضْرِبُ
وہ دو عورتیں مارتی ہیں۔	تثنيه مؤنث غائب	تَضْرِبَانِ
وہ سب عورتیں مارتی ہیں۔	جمع مؤنث غائب	يَضْرِبْنَ
تُو ایک مرد مارتا ہے۔	واحد مذکر حاضر	تَضْرِبُ
تُم دو مرد مارتے ہو۔	تثنيه مذکر حاضر	تَضْرِبَانِ
تُم سب مرد مارتے ہو۔	جمع مذکر حاضر	تَضْرِبُونَ
تُو ایک عورت مارتی ہے۔	واحد مؤنث حاضر	تَضْرِبِينَ
تُم دو عورتیں مارتی ہو۔	تثنيه مؤنث حاضر	تَضْرِبَانِ
تُم سب عورتیں مارتی ہو۔	جمع مؤنث حاضر	تَضْرِبْنَ
میں مارتا ہوں۔	واحد متکلم	أَضْرِبُ
ہم مارتے ہیں۔	جمع متکلم	نَضْرِبُ

فعل مضارع کے تین صیغوں میں فاعل ہمیشہ چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے۔

واحد مذکر حاضر (تَضْرِبُ) میں أَنْتَ واحد متکلم (أَضْرِبُ) میں أَنَا

جمع متکلم (نَضْرِبُ) میں نَحْنُ



## فعل مثبت مضارع مجہول

ترجمہ	صیغہ	فعل مضارع
وہ ایک مرد مارتا جاتا ہے۔	واحد مذکر غائب	يُضْرَبُ
وہ دو مرد مارے جاتے ہیں۔	تشبیہ مذکر غائب	يُضْرَبَانِ
وہ سب مرد مارے جاتے ہیں	جمع مذکر غائب	يُضْرَبُونَ
وہ ایک عورت ماری جاتی ہے	واحد مؤنث غائب	تُضْرَبُ
وہ دو عورتیں ماری جاتی ہیں۔	تشبیہ مؤنث غائب	تُضْرَبَانِ
وہ سب عورتیں ماری جاتی ہیں	جمع مؤنث غائب	يُضْرَبْنَ
تُو ایک مرد مارا جاتا ہے۔	واحد مذکر حاضر	تُضْرَبُ
تُم دو مرد مارے جاتے ہو۔	تشبیہ مذکر حاضر	تُضْرَبَانِ
تُم سب مرد مارے جاتے ہو	جمع مذکر حاضر	تُضْرَبُونَ
تُو ایک عورت ماری جاتی ہے	واحد مؤنث حاضر	تُضْرَبِينَ
تُم دو عورتیں ماری جاتی ہو۔	تشبیہ مؤنث حاضر	تُضْرَبَانِ
تُم سب عورتیں ماری جاتی ہو	جمع مؤنث حاضر	تُضْرَبْنَ
میں مارا جاتا ہوں۔	واحد متکلم	أُضْرَبُ
ہم مارے جاتے ہیں۔	جمع متکلم	نُضْرَبُ

يُضْرَبُ کا فاعل اگر اسمِ ظاہر نہ ہو تو اس کا فاعل، هُوَ اس کے اندر چھپا ہوگا۔

اسی طرح تُضْرَبُ کا فاعل اگر اسمِ ظاہر نہ ہو تو اس کا فاعل، هِيَ اس کے اندر چھپا ہوگا۔

## فعل منفی مضارع معروف

ترجمہ	صیغہ	فعل مضارع
وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے۔	واحد مذکر غائب	لَا يَضْرِبُ
وہ دو مرد نہیں مارتے ہیں۔	تثنيه مذکر غائب	لَا يَضْرِبَانِ
وہ سب مرد نہیں مارتے ہیں۔	جمع مذکر غائب	لَا يَضْرِبُونَ
وہ ایک عورت نہیں مارتی ہے۔	واحد مؤنث غائب	لَا تَضْرِبُ
وہ دو عورتیں نہیں مارتی ہیں۔	تثنيه مؤنث غائب	لَا تَضْرِبَانِ
وہ سب عورتیں نہیں مارتی ہیں	جمع مؤنث غائب	لَا يَضْرِبْنَ
تُو ایک مرد نہیں مارتا ہے۔	واحد مذکر حاضر	لَا تَضْرِبُ
تُم دو مرد نہیں مارتے ہو۔	تثنيه مذکر حاضر	لَا تَضْرِبَانِ
تُم سب مرد نہیں مارتے ہو۔	جمع مذکر حاضر	لَا تَضْرِبُونَ
تُو ایک عورت نہیں مارتی ہے۔	واحد مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبِينَ
تُم دو عورتیں نہیں مارتی ہو۔	تثنيه مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبَانِ
تُم سب عورتیں نہیں مارتی ہو۔	جمع مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبْنَ
میں نہیں مارتا ہوں۔	واحد متکلم	لَا أَضْرِبُ
ہم نہیں مارتے ہیں۔	جمع متکلم	لَا نَضْرِبُ

لا کا معنی نہیں ہے اور اسے لا نافیہ کہتے ہیں۔ نفی کے معنوں کے لئے فعل ماضی سے پہلے ما آتا ہے اور فعل مضارع سے پہلے لا آتا ہے۔ کبھی کبھی فعل مضارع سے پہلے بھی ما آتا ہے

## فعل منفی مضارع مجہول

ترجمہ	صیغہ	فعل مضارع
وہ ایک مرد نہیں مارتا جاتا ہے	واحد مذکر غائب	لَا يُضْرَبُ
وہ دو مرد نہیں مارے جاتے ہیں	تشبیہ مذکر غائب	لَا يُضْرَبَانِ
وہ سب مرد نہیں مارے جاتے ہیں	جمع مذکر غائب	لَا يُضْرَبُونَ
وہ ایک عورت نہیں ماری جاتی ہے	واحد مؤنث غائب	لَا تُضْرَبُ
وہ دو عورتیں نہیں ماری جاتی ہیں	تشبیہ مؤنث غائب	لَا تُضْرَبَانِ
وہ سب عورتیں نہیں ماری جاتی ہیں	جمع مؤنث غائب	لَا يُضْرَبْنَ
تُو ایک مرد نہیں مارا جاتا ہے۔	واحد مذکر حاضر	لَا تُضْرَبُ
تُم دو مرد نہیں مارے جاتے ہو۔	تشبیہ مذکر حاضر	لَا تُضْرَبَانِ
تُم سب مرد نہیں مارے جاتے ہو	جمع مذکر حاضر	لَا تُضْرَبُونَ
تُو ایک عورت نہیں ماری جاتی ہے	واحد مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبِينَ
تُم دو عورتیں نہیں ماری جاتی ہو	تشبیہ مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبَانِ
تُم سب عورتیں نہیں ماری جاتی ہو	جمع مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبْنَ
میں نہیں مارا جاتا ہوں۔	واحد متکلم	لَا أُضْرَبُ
ہم نہیں مارے جاتے ہیں۔	جمع متکلم	لَا نُضْرَبُ

## نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف

ترجمہ	صیغہ	نفی تاکید
وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارے گا۔	واحد مذکر غائب	لَنْ يَضْرِبَ
وہ دو مرد ہرگز نہیں ماریں گے۔	تثنیہ مذکر غائب	لَنْ يَضْرِبَا
وہ سب مرد ہرگز نہیں ماریں گے۔	جمع مذکر غائب	لَنْ يَضْرِبُوا
وہ ایک عورت ہرگز نہیں مارے گی۔	واحد مؤنث غائب	لَنْ تَضْرِبَ
وہ دو عورتیں ہرگز نہیں ماریں گی۔	تثنیہ مؤنث غائب	لَنْ تَضْرِبَا
وہ سب عورتیں ہرگز نہیں ماریں گی۔	جمع مؤنث غائب	لَنْ يَضْرِبْنَ
تو ایک مرد ہرگز نہیں مارے گا۔	واحد مذکر حاضر	لَنْ تَضْرِبَ
تم دو مرد ہرگز نہیں مارو گے۔	تثنیہ مذکر حاضر	لَنْ تَضْرِبَا
تم سب مرد ہرگز نہیں مارو گے۔	جمع مذکر حاضر	لَنْ تَضْرِبُوا
تو ایک عورت ہرگز نہیں مارے گی۔	واحد مؤنث حاضر	لَنْ تَضْرِبِي
تم دو عورتیں ہرگز نہیں مارو گی۔	تثنیہ مؤنث حاضر	لَنْ تَضْرِبَا
تم سب عورتیں ہرگز نہیں مارو گی۔	جمع مؤنث حاضر	لَنْ تَضْرِبْنَ
میں ہرگز نہیں ماروں گا۔	واحد متکلم	لَنْ أَضْرِبَ
ہم ہرگز نہیں ماریں گے۔	جمع متکلم	لَنْ نَضْرِبَ

## نفي تاكيد بلن در فعل مستقبل مجهول

ترجمہ	صیغہ	نفي تاكيد
وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارا جائے گا۔	واحد مذکر غائب	لَنْ يُضْرَبَ
وہ دو مرد ہرگز نہیں ماریں جائیں گے	تشبیہ مذکر غائب	لَنْ يُضْرَبَا
وہ سب مرد ہرگز نہیں ماریں جائیں گے	جمع مذکر غائب	لَنْ يُضْرَبُوا
وہ ایک عورت ہرگز نہیں مارے جائے گی	واحد مؤنث غائب	لَنْ تُضْرَبَ
وہ دو عورتیں ہرگز نہیں ماری جائیں گی	تشبیہ مؤنث غائب	لَنْ تُضْرَبَا
وہ سب عورتیں ہرگز نہیں ماریں جائیں گی	جمع مؤنث غائب	لَنْ يُضْرَبْنَ
تو ایک مرد ہرگز نہیں مارا جائے گا۔	واحد مذکر حاضر	لَنْ تُضْرَبَ
تم دو مرد ہرگز نہیں مارے جاؤ گے۔	تشبیہ مذکر حاضر	لَنْ تُضْرَبَا
تم سب مرد ہرگز نہیں مارے جاؤ گے	جمع مذکر حاضر	لَنْ تُضْرَبُوا
تو ایک عورت ہرگز نہیں ماری جائے گی	واحد مؤنث حاضر	لَنْ تُضْرَبِي
تم دو عورتیں ہرگز نہیں ماری جاؤ گی۔	تشبیہ مؤنث حاضر	لَنْ تُضْرَبَا
تم سب عورتیں ہرگز نہیں ماری جاؤ گی	جمع مؤنث حاضر	لَنْ تُضْرَبْنَ
میں ہرگز نہیں مارا جاؤں گا۔	واحد متکلم	لَنْ أُضْرَبَ
ہم ہرگز نہیں مارے جائیں گے۔	جمع متکلم	لَنْ نُضْرَبَ

## نفی جحد بلم در فعل مضارع معروف

ترجمہ	صیغہ	نفی جحد
اُس ایک مرد نے نہیں مارا۔	واحد مذکر غائب	لَمْ يَضْرِبْ
اُن دو مردوں نے نہیں مارا۔	تشبیہ مذکر غائب	لَمْ يَضْرِبَا
اُن سب مردوں نے نہیں مارا۔	جمع مذکر غائب	لَمْ يَضْرِبُوا
اُس ایک عورت نے نہیں مارا۔	واحد مؤنث غائب	لَمْ تَضْرِبْ
اُن دو عورتوں نے نہیں مارا۔	تشبیہ مؤنث غائب	لَمْ تَضْرِبَا
اُن سب عورتوں نے نہیں مارا۔	جمع مؤنث غائب	لَمْ تَضْرِبْنَ
تو ایک مرد نے نہیں مارا۔	واحد مذکر حاضر	لَمْ تَضْرِبْ
تم دو مردوں نے نہیں مارا۔	تشبیہ مذکر حاضر	لَمْ تَضْرِبَا
تم سب مردوں نے نہیں مارا۔	جمع مذکر حاضر	لَمْ تَضْرِبُوا
تو ایک عورت نے نہیں مارا۔	واحد مؤنث حاضر	لَمْ تَضْرِبِي
تم دو عورتوں نے نہیں مارا۔	تشبیہ مؤنث حاضر	لَمْ تَضْرِبَا
تم سب عورتوں نے نہیں مارا۔	جمع مؤنث حاضر	لَمْ تَضْرِبْنَ
میں نے نہیں مارا۔	واحد متکلم	لَمْ اَضْرِبْ
ہم نے نہیں مارا۔	جمع متکلم	لَمْ نَضْرِبْ

## نفی جحد بلم در فعل مضارع مجہول

ترجمہ	صیغہ	نفی جحد
وہ ایک مرد نہیں مارا گیا۔	واحد مذکر غائب	لَمْ يُضْرَبْ
وہ دو مرد نہیں مارے گئے۔	تثنیہ مذکر غائب	لَمْ يُضْرَبَا
وہ سب مرد نہیں مارے گئے۔	جمع مذکر غائب	لَمْ يُضْرَبُوا
وہ ایک عورت نہیں ماری گئی۔	واحد مؤنث غائب	لَمْ تُضْرَبْ
وہ دو عورتیں نہیں ماری گئیں۔	تثنیہ مؤنث غائب	لَمْ تُضْرَبَا
وہ سب عورتیں نہیں ماری گئیں	جمع مؤنث غائب	لَمْ يُضْرَبْنَ
تُو ایک مرد نہیں مارا گیا۔	واحد مذکر حاضر	لَمْ تُضْرَبْ
تُم دو مرد نہیں مارے گئے۔	تثنیہ مذکر حاضر	لَمْ تُضْرَبَا
تُم سب مرد نہیں مارے گئے۔	جمع مذکر حاضر	لَمْ تُضْرَبُوا
تُو ایک عورت نہیں ماری گئی۔	واحد مؤنث حاضر	لَمْ تُضْرَبِيْ
تُم دو عورتیں نہیں ماری گئیں۔	تثنیہ مؤنث حاضر	لَمْ تُضْرَبَا
تُم سب عورتیں نہیں ماری گئیں	جمع مؤنث حاضر	لَمْ تُضْرَبْنَ
میں نہیں مارا گیا۔	واحد متکلم	لَمْ أُضْرَبْ
ہم نہیں مارے گئے۔	جمع متکلم	لَمْ نُضْرَبْ

## لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ

### در فعل مستقبل معروف

ترجمہ	صیغہ	ثقیلہ معروف
وہ ایک مرد ضرور ضرور مارے گا۔	واحد مذکر غائب	لَيَضْرِبَنَّ
وہ دو مرد ضرور ضرور ماریں گے۔	تشبیہ مذکر غائب	لَيَضْرِبَانَّ
وہ سب مرد ضرور ضرور ماریں گے۔	جمع مذکر غائب	لَيَضْرِبُنَّ
وہ ایک عورت ضرور ضرور مارے گی۔	واحد مؤنث غائب	لَتَضْرِبَنَّ
وہ دو عورتیں ضرور ضرور ماریں گی۔	تشبیہ مؤنث غائب	لَتَضْرِبَانَّ
وہ سب عورتیں ضرور ضرور ماریں گی۔	جمع مؤنث غائب	لَيَضْرِبَنَّ
تُو ایک مرد ضرور ضرور مارے گا۔	واحد مذکر حاضر	لَتَضْرِبَنَّ
تُم دو مرد ضرور ضرور مارو گے۔	تشبیہ مذکر حاضر	لَتَضْرِبَانَّ
تُم سب مرد ضرور ضرور مارو گے۔	جمع مذکر حاضر	لَتَضْرِبُنَّ
تُو ایک عورت ضرور ضرور مارو گی۔	واحد مؤنث حاضر	لَتَضْرِبَنَّ
تُم دو عورتیں ضرور ضرور مارو گی۔	تشبیہ مؤنث حاضر	لَتَضْرِبَانَّ
تُم سب عورتیں ضرور ضرور مارو گی۔	جمع مؤنث حاضر	لَتَضْرِبَنَّ
میں ضرور ضرور ماروں گا۔	واحد متکلم	لَا ضَرْبَنَّ
ہم ضرور ضرور ماریں گے۔	جمع متکلم	لَتَضْرِبَنَّ



## لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ

### در فعل مستقبل مجهول

ترجمہ	صیغہ	ثقیلہ مجهول
وہ ایک مرد ضرور ضرور مارا جائے گا۔	واحد مذکر غائب	لَيُضْرَبَنَّ
وہ دو مرد ضرور ضرور مارے جائیں گے	تشبیہ مذکر غائب	لَيُضْرَبَانَّ
وہ سب مرد ضرور ضرور مارے جائیں گے	جمع مذکر غائب	لَيُضْرَبْنَ
وہ ایک عورت ضرور ضرور ماری جائے گی	واحد مؤنث غائب	لَتُضْرَبَنَّ
وہ دو عورتیں ضرور ضرور ماری جائیں گی	تشبیہ مؤنث غائب	لَتُضْرَبَانَّ
وہ سب عورتیں ضرور ضرور ماری جائیں گی	جمع مؤنث غائب	لَيُضْرَبَنَّ
تُو ایک مرد ضرور ضرور مارا جائے گا۔	واحد مذکر حاضر	لَتُضْرَبَنَّ
تُم دو مرد ضرور ضرور مارے جاؤ گے۔	تشبیہ مذکر حاضر	لَتُضْرَبَانَّ
تُم سب مرد ضرور ضرور مارے جاؤ گے۔	جمع مذکر حاضر	لَتُضْرَبْنَ
تُو ایک عورت ضرور ضرور ماری جائے گی	واحد مؤنث حاضر	لَتُضْرَبَنَّ
تُم دو عورتیں ضرور ضرور ماری جاؤ گی۔	تشبیہ مؤنث حاضر	لَتُضْرَبَانَّ
تُم سب عورتیں ضرور ضرور ماری جاؤ گی	جمع مؤنث حاضر	لَتُضْرَبَنَّ
میں ضرور ضرور مارا جاؤں گا۔	واحد متکلم	لَا أُضْرَبَنَّ
ہم ضرور ضرور مارے جائیں گے۔	جمع متکلم	لَتُضْرَبَنَّ

## لام تاکید با نون تاکید خفیفہ

### در فعل مستقبل معروف

ترجمہ	صیغہ	خفیفہ معروف
وہ ایک مرد ضرور ضرور مارے گا۔	واحد مذکر غائب	لَيَضْرِبُنَّ
وہ سب مرد ضرور ضرور ماریں گے۔	جمع مذکر غائب	لَيَضْرِبُنَّ
وہ ایک عورت ضرور ضرور مارے گی	واحد مؤنث غائب	لَتَضْرِبَنَّ
تُو ایک مرد ضرور ضرور مارے گا۔	واحد مذکر حاضر	لَتَضْرِبَنَّ
تُم سب مرد ضرور ضرور مارو گے۔	جمع مذکر حاضر	لَتَضْرِبُنَّ
تُو ایک عورت ضرور ضرور مارو گی۔	واحد مؤنث حاضر	لَتَضْرِبَنَّ
میں ضرور ضرور ماروں گا۔	واحد متکلم	لَا ضَرْبِي
ہم ضرور ضرور ماریں گے۔	جمع متکلم	لَنْضْرِبَنَّ

## لام تاکید با نون تاکید خفیفہ

### در فعل مستقبل مجہول

ترجمہ	صیغہ	خفیفہ مجہول
وہ ایک مرد ضرور ضرور مارا جائے گا۔	واحد مذکر غائب	لَيُضْرَبَنَّ
وہ سب مرد ضرور ضرور مارے جائیں گے	جمع مذکر غائب	لَيُضْرَبَنَّ
وہ ایک عورت ضرور ضرور ماری جائے گی	واحد مؤنث غائب	لَتُضْرَبَنَّ لَتُضْرَبَنَّ
تُو ایک مرد ضرور ضرور مارا جائے گا۔	واحد مذکر حاضر	لَتُضْرَبَنَّ
تُم سب مرد ضرور ضرور مارے جاؤ گے۔	جمع مذکر حاضر	لَتُضْرَبَنَّ
تُو ایک عورت ضرور ضرور ماری جائے گی	واحد مؤنث حاضر	لَتُضْرَبَنَّ لَتُضْرَبَنَّ
میں ضرور ضرور مارا جاؤں گا۔	واحد متکلم	لَا ضَرْبَنَّ
ہم ضرور ضرور مارے جائیں گے۔	جمع متکلم	لَنُضْرَبَنَّ

## فعل امر معروف

ترجمہ	صیغہ	امر معروف
چاہئے کہ وہ ایک مرد مارے۔	واحد مذکر غائب	لِيَضْرِبْ
چاہئے کہ وہ دو مرد ماریں۔	تثنيه مذکر غائب	لِيَضْرِبَا
چاہئے کہ وہ سب مرد ماریں۔	جمع مذکر غائب	لِيَضْرِبُوا
چاہئے کہ وہ ایک عورت مارے۔	واحد مؤنث غائب	لَتَضْرِبْ
چاہئے کہ وہ دو عورتیں ماریں۔	تثنيه مؤنث غائب	لَتَضْرِبَا
چاہئے کہ وہ سب عورتیں ماریں۔	جمع مؤنث غائب	لِيَضْرِبْنَ
تو ایک مرد مار۔	واحد مذکر حاضر	اَضْرِبْ
تم دو مرد مارو۔	تثنيه مذکر حاضر	اَضْرِبَا
تم سب مرد مارو۔	جمع مذکر حاضر	اَضْرِبُوا
تو ایک عورت مار۔	واحد مؤنث حاضر	اَضْرِبِيْ
تم دو عورتیں مارو۔	تثنيه مؤنث حاضر	اَضْرِبَا
تم سب عورتیں مارو۔	جمع مؤنث حاضر	اَضْرِبْنَ
چاہئے کہ میں ماروں۔	واحد متکلم	لَاَضْرِبْ
چاہئے کہ ہم ماریں۔	جمع متکلم	لِنَضْرِبْ

## فعل امر مجہول

ترجمہ	صیغہ	امر مجہول
چاہئے کہ وہ ایک مرد مارا جائے۔	واحد مذکر غائب	لِيُضْرَبْ
چاہئے کہ وہ دو مرد مارے جائیں۔	تشبیہ مذکر غائب	لِيُضْرَبَا
چاہئے کہ وہ سب مرد مارے جائیں	جمع مذکر غائب	لِيُضْرَبُوا
چاہئے کہ وہ ایک عورت ماری جائے	واحد مؤنث غائب	لِتُضْرَبْ
چاہئے کہ وہ دو عورتیں ماری جائیں۔	تشبیہ مؤنث غائب	لِتُضْرَبَا
چاہئے کہ وہ سب عورتیں ماری جائیں	جمع مؤنث غائب	لِيُضْرَبْنَ
چاہئے کہ تو ایک مرد مارا جائے۔	واحد مذکر حاضر	لِتُضْرَبْ
چاہئے کہ تم دو مرد مارے جاؤ۔	تشبیہ مذکر حاضر	لِتُضْرَبَا
چاہئے کہ تم سب مرد مارے جاؤ۔	جمع مذکر حاضر	لِتُضْرَبُوا
چاہئے کہ تو ایک عورت ماری جائے	واحد مؤنث حاضر	لِتُضْرَبِيْ
چاہئے کہ تم دو عورتیں ماری جاؤ۔	تشبیہ مؤنث حاضر	لِتُضْرَبَا
چاہئے کہ تم سب عورتیں ماری جاؤ۔	جمع مؤنث حاضر	لِتُضْرَبْنَ
چاہئے کہ میں مارا جاؤں۔	واحد متکلم	لَاُضْرَبْ
چاہئے کہ ہم مارے جائیں۔	جمع متکلم	لِنُضْرَبْ

## فعل امر معروف با نون ثقیله

ترجمہ	صیغہ	امر معروف ثقیله
چاہئے کہ وہ ایک مرد ضرور مارے۔	واحد مذکر غائب	لِيَضْرِبَنَّ
چاہئے کہ وہ دو مرد ضرور ماریں۔	تشبیہ مذکر غائب	لِيَضْرِبَنَّ
چاہئے کہ وہ سب مرد ضرور ماریں۔	جمع مذکر غائب	لِيَضْرِبَنَّ
چاہئے کہ وہ ایک عورت ضرور مارے۔	واحد مؤنث غائب	لَتَضْرِبَنَّ
چاہئے کہ وہ دو عورتیں ضرور ماریں۔	تشبیہ مؤنث غائب	لَتَضْرِبَنَّ
چاہئے کہ وہ سب عورتیں ضرور ماریں۔	جمع مؤنث غائب	لِيَضْرِبَنَّ
تو ایک مرد ضرور مار۔	واحد مذکر حاضر	اَضْرِبَنَّ
تم دو مرد ضرور مارو۔	تشبیہ مذکر حاضر	اَضْرِبَنَّ
تم سب مرد ضرور مارو۔	جمع مذکر حاضر	اَضْرِبَنَّ
تو ایک عورت ضرور مار۔	واحد مؤنث حاضر	اَضْرِبَنَّ
تم دو عورتیں ضرور مارو۔	تشبیہ مؤنث حاضر	اَضْرِبَنَّ
تم سب عورتیں ضرور مارو۔	جمع مؤنث حاضر	اَضْرِبَنَّ
چاہئے کہ میں ضرور ماروں۔	واحد متکلم	لَاضْرِبَنَّ
چاہئے کہ ہم ضرور ماریں۔	جمع متکلم	لِنَضْرِبَنَّ

## فعل امر مجهول با نون ثقیله

ترجمہ	صیغہ	امر مجهول ثقیله
چاہئے کہ وہ ایک مرد ضرور مارا جائے۔	واحد مذکر غائب	لِيُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ وہ دو مرد ضرور مارے جائیں۔	تشبیہ مذکر غائب	لِيُضْرَبَانَّ
چاہئے کہ وہ سب مرد ضرور مارے جائیں	جمع مذکر غائب	لِيُضْرَبِنَّ
چاہئے کہ وہ ایک عورت ضرور ماری جائے	واحد مؤنث غائب	لِتُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ وہ دو عورتیں ضرور ماری جائیں	تشبیہ مؤنث غائب	لِتُضْرَبَانَّ
چاہئے کہ وہ سب عورتیں ضرور ماری جائیں	جمع مؤنث غائب	لِيُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ تو ایک مرد ضرور مارا جائے۔	واحد مذکر حاضر	لِتُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ تم دو مرد ضرور مارے جاؤ۔	تشبیہ مذکر حاضر	لِتُضْرَبَانَّ
چاہئے کہ تم سب مرد ضرور مارے جاؤ۔	جمع مذکر حاضر	لِتُضْرَبِنَّ
چاہئے کہ تو ایک عورت ضرور ماری جائے	واحد مؤنث حاضر	لِتُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ تم دو عورتیں ضرور ماری جاؤ۔	تشبیہ مؤنث حاضر	لِتُضْرَبَانَّ
چاہئے کہ تم سب عورتیں ضرور ماری جاؤ۔	جمع مؤنث حاضر	لِتُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ میں ضرور مارا جاؤں۔	واحد متکلم	لَا تُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ ہم ضرور مارے جائیں۔	جمع متکلم	لِتُضْرَبَنَّ

## فعل امر خفیفہ معروف با نون تاکید خفیفہ

ترجمہ	صیغہ	امر خفیفہ معروف
چاہئے کہ وہ ایک مرد ضرور مارے۔	واحد مذکر غائب	لِيَضْرِبَنَّ
چاہئے کہ وہ سب مرد ضرور ماریں۔	جمع مذکر غائب	لِيَضْرِبُنَّ
چاہئے کہ وہ ایک عورت ضرور مارے	واحد مؤنث غائب	لِتَضْرِبَنَّ
تو ایک مرد ضرور مار۔	واحد مذکر حاضر	اِضْرِبَنَّ
تم سب مرد ضرور مارو۔	جمع مذکر حاضر	اِضْرِبُنَّ
تو ایک عورت ضرور مار۔	واحد مؤنث حاضر	اِضْرِبَنَّ
چاہئے کہ میں ضرور ماروں۔	واحد متکلم	لَا ضْرِبَنَّ
چاہئے کہ ہم ضرور ماریں۔	جمع متکلم	لِنَضْرِبَنَّ



## فعل امر خفیفہ مجہول با نون تاکید خفیفہ

ترجمہ	صیغہ	امر خفیفہ مجہول
چاہئے کہ وہ ایک مرد ضرور مارا جائے۔	واحد مذکر غائب	لِيُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ وہ سب مرد ضرور مارے جائیں	جمع مذکر غائب	لِيُضْرَبُوْا
چاہئے کہ وہ ایک عورت ضرور ماری جائے	واحد مؤنث غائب	لَتُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ تو ایک مرد ضرور مارا جائے۔	واحد مذکر حاضر	لَتُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ تم سب مرد ضرور مارے جاؤ۔	جمع مذکر حاضر	لَتُضْرَبُوْا
چاہئے کہ تو ایک عورت ضرور ماری جائے	واحد مؤنث حاضر	لَتُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ میں ضرور مارا جاؤں۔	واحد متکلم	لَا تُضْرَبَنَّ
چاہئے کہ ہم ضرور مارے جائیں۔	جمع متکلم	لَتُضْرَبَنَّ

## فعل نہی معروف

ترجمہ	صیغہ	نہی معروف
وہ ایک مرد نہ مارے۔	واحد مذکر غائب	لَا يَضْرِبُ
وہ دو مرد نہ ماریں۔	تشبیہ مذکر غائب	لَا يَضْرِبَا
وہ سب مرد نہ ماریں۔	جمع مذکر غائب	لَا يَضْرِبُوا
وہ ایک عورت نہ مارے۔	واحد مؤنث غائب	لَا تَضْرِبُ
وہ دو عورتیں نہ ماریں۔	تشبیہ مؤنث غائب	لَا تَضْرِبَا
وہ سب عورتیں نہ ماریں۔	جمع مؤنث غائب	لَا يَضْرِبْنَ
تو ایک مرد نہ مار۔	واحد مذکر حاضر	لَا تَضْرِبُ
تم دو مرد نہ مارو۔	تشبیہ مذکر حاضر	لَا تَضْرِبَا
تم سب مرد نہ مارو۔	جمع مذکر حاضر	لَا تَضْرِبُوا
تو ایک عورت نہ مار۔	واحد مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبِي
تم دو عورتیں نہ مارو۔	تشبیہ مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبَا
تم سب عورتیں نہ مارو۔	جمع مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبْنَ
میں نہ ماروں۔	واحد متکلم	لَا أَضْرِبُ
ہم نہ ماریں۔	جمع متکلم	لَا نَضْرِبُ

## فعل نہی مجہول

ترجمہ	صیغہ	نہی مجہول
وہ ایک مرد نہ مارا جائے۔	واحد مذکر غائب	لَا يُضْرَبُ
وہ دو مرد نہ مارے جائیں۔	تشبیہ مذکر غائب	لَا يُضْرَبَا
وہ سب مرد نہ مارے جائیں	جمع مذکر غائب	لَا يُضْرَبُوا
وہ ایک عورت نہ ماری جائے	واحد مؤنث غائب	لَا تُضْرَبُ
وہ دو عورتیں نہ ماری جائیں۔	تشبیہ مؤنث غائب	لَا تُضْرَبَا
وہ سب عورتیں نہ ماری جائیں	جمع مؤنث غائب	لَا يُضْرَبْنَ
تو ایک مرد نہ مارا جائے۔	واحد مذکر حاضر	لَا تُضْرَبُ
تم دو مرد نہ مارے جاؤ۔	تشبیہ مذکر حاضر	لَا تُضْرَبَا
تم سب مرد نہ مارے جاؤ۔	جمع مذکر حاضر	لَا تُضْرَبُوا
تو ایک عورت نہ ماری جائے۔	واحد مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبِي
تم دو عورتیں نہ ماری جاؤ۔	تشبیہ مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبَا
تم سب عورتیں نہ ماری جاؤ۔	جمع مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبْنَ
میں نہ مارا جاؤں۔	واحد متکلم	لَا أُضْرَبُ
ہم نہ مارے جائیں۔	جمع متکلم	لَا نُضْرَبُ

## فعل نہی معروف با نون تاکید ثقیلہ

ترجمہ	صیغہ	نہی معروف ثقیلہ
وہ ایک مرد ہرگز نہ مارے۔	واحد مذکر غائب	لَا يَضْرِبَنَّ
وہ دو مرد ہرگز نہ ماریں۔	تشبیہ مذکر غائب	لَا يَضْرِبَانِ
وہ سب مرد ہرگز نہ ماریں۔	جمع مذکر غائب	لَا يَضْرِبُنَّ
وہ ایک عورت ہرگز نہ مارے۔	واحد مؤنث غائب	لَا تَضْرِبَنَّ
وہ دو عورتیں ہرگز نہ ماریں۔	تشبیہ مؤنث غائب	لَا تَضْرِبَانِ
وہ سب عورتیں ہرگز نہ ماریں۔	جمع مؤنث غائب	لَا يَضْرِبَنَّ
تو ایک مرد ہرگز نہ مارے۔	واحد مذکر حاضر	لَا تَضْرِبَنَّ
تم دو مرد ہرگز نہ مارو۔	تشبیہ مذکر حاضر	لَا تَضْرِبَانِ
تم سب مرد ہرگز نہ مارو۔	جمع مذکر حاضر	لَا تَضْرِبُنَّ
تو ایک عورت ہرگز نہ مارے۔	واحد مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبَنَّ
تم دو عورتیں ہرگز نہ مارو۔	تشبیہ مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبَانِ
تم سب عورتیں ہرگز نہ مارو۔	جمع مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبَنَّ
میں ہرگز نہ ماروں۔	واحد متکلم	لَا أَضْرِبَنَّ
ہم ہرگز نہ ماریں۔	جمع متکلم	لَا نَضْرِبَنَّ

## فعل نہی مجہول با نون تاکید ثقیلہ

ترجمہ	صیغہ	نہی مجہول ثقیلہ
وہ ایک مرد ہرگز نہ مارا جائے۔	واحد مذکر غائب	لَا يُضْرَبَنَّ
وہ دو مرد ہرگز نہ مارے جائیں۔	تثنیہ مذکر غائب	لَا يُضْرَبَانِ
وہ سب مرد ہرگز نہ مارے جائیں	جمع مذکر غائب	لَا يُضْرَبُونَ
وہ ایک عورت ہرگز نہ ماری جائے	واحد مؤنث غائب	لَا تُضْرَبَنَّ
وہ دو عورتیں ہرگز نہ ماری جائیں۔	تثنیہ مؤنث غائب	لَا تُضْرَبَانِ
وہ سب عورتیں ہرگز نہ ماری جائیں	جمع مؤنث غائب	لَا يُضْرَبْنَ
تو ایک مرد ہرگز نہ مارا جائے۔	واحد مذکر حاضر	لَا تُضْرَبَنَّ
تم دو مرد ہرگز نہ مارے جاؤ۔	تثنیہ مذکر حاضر	لَا تُضْرَبَانِ
تم سب مرد ہرگز نہ مارے جاؤ۔	جمع مذکر حاضر	لَا تُضْرَبُونَ
تو ایک عورت ہرگز نہ ماری جائے۔	واحد مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبَنَّ
تم دو عورتیں ہرگز نہ ماری جاؤ۔	تثنیہ مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبَانِ
تم سب عورتیں ہرگز نہ ماری جاؤ۔	جمع مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبْنَ
میں ہرگز نہ مارا جاؤں۔	واحد متکلم	لَا أُضْرَبَنَّ
ہم ہرگز نہ مارے جائیں۔	جمع متکلم	لَا نُضْرَبَنَّ

## فعل نہی معروف خفیفہ

ترجمہ	صیغہ	نہی معروف خفیفہ
وہ ایک مرد ہرگز نہ مارے۔	واحد مذکر غائب	لَا يَضْرِبَنَّ
وہ سب مرد ہرگز نہ ماریں۔	جمع مذکر غائب	لَا يَضْرِبُنَّ
وہ ایک عورت ہرگز نہ مارے۔	واحد مؤنث غائب	لَا تَضْرِبَنَّ
تو ایک مرد ہرگز نہ مار۔	واحد مذکر حاضر	لَا تَضْرِبَنَّ
تم سب مرد ہرگز نہ مارو۔	جمع مذکر حاضر	لَا تَضْرِبُنَّ
تو ایک عورت ہرگز نہ مار۔	واحد مؤنث حاضر	لَا تَضْرِبَنَّ
میں ہرگز نہ ماروں۔	واحد متکلم	لَا أَضْرِبَنَّ
ہم ہرگز نہ ماریں۔	جمع متکلم	لَا نَضْرِبَنَّ

## فعل نہی مجہول با نون تاکید خفیفہ

ترجمہ	صیغہ	نہی مجہول خفیفہ
وہ ایک مرد ہرگز نہ مارا جائے۔	واحد مذکر غائب	لَا يُضْرَبَنَّ
وہ سب مرد ہرگز نہ مارے جائیں	جمع مذکر غائب	لَا يُضْرَبُونَ
وہ ایک عورت ہرگز نہ ماری جائے	واحد مؤنث غائب	لَا تُضْرَبَنَّ
تو ایک مرد ہرگز نہ مارا جائے۔	واحد مذکر حاضر	لَا تُضْرَبَنَّ
تم سب مرد ہرگز نہ مارے جاؤ۔	جمع مذکر حاضر	لَا تُضْرَبُونَ
تو ایک عورت ہرگز نہ ماری جائے۔	واحد مؤنث حاضر	لَا تُضْرَبَنَّ
میں ہرگز نہ مارا جاؤں۔	واحد متکلم	لَا أُضْرَبَنَّ
ہم ہرگز نہ مارے جائیں۔	جمع متکلم	لَا نُضْرَبَنَّ

## اسم فاعل

ترجمہ	صیغہ	اسم فاعل
مارنے والا ایک مرد	واحد مذکر	ضَارِبٌ
مارنے والے دو مرد	تشبیہ مذکر	ضَارِبَانِ
مارنے والے سب مرد	جمع مذکر	ضَارِبُونَ
مارنے والے سب مرد	جمع مذکر مکسر	ضَرَبَةٌ
مارنے والے سب مرد	جمع مذکر مکسر	ضُرَابٌ
مارنے والے سب مرد	جمع مذکر مکسر	ضُرَبٌ
مارنے والے سب مرد	جمع مذکر مکسر	ضُرْبٌ
مارنے والے سب مرد	جمع مذکر مکسر	ضُرْبَاءُ
مارنے والے سب مرد	جمع مذکر مکسر	ضُرْبَانٌ
مارنے والے سب مرد	جمع مذکر مکسر	ضِرَابٌ
مارنے والے سب مرد	جمع مذکر مکسر	ضُرُوبٌ
مارنے والی ایک عورت	واحد مؤنث	ضَارِبَةٌ
مارنے والی دو عورتیں	تشبیہ مؤنث	ضَارِبَتَانِ
مارنے والی سب عورتیں	جمع مؤنث	ضَارِبَاتٌ
مارنے والی سب عورتیں	جمع مؤنث مکسر	ضَوَارِبٌ
مارنے والا ایک چھوٹا مرد	واحد مذکر مُصَغَّرٌ	ضَوِيرٌ
مارنے والی ایک چھوٹی عورت	واحد مؤنث مُصَغَّرَةٌ	ضَوِيرَةٌ



## اسم مفعول

ترجمہ	صیغہ	اسم مفعول
مارا ہوا ایک مرد	واحد مذکر	مَضْرُوبٌ
مارے ہوئے دو مرد	تثنیہ مذکر	مَضْرُوبَانِ
مارے ہوئے سب مرد	جمع مذکر	مَضْرُوبُونَ
ماری ہوئی ایک عورت	واحد مؤنث	مَضْرُوبَةٌ
ماری ہوئی دو عورتیں	تثنیہ مؤنث	مَضْرُوبَتَانِ
ماری ہوئی سب عورتیں	جمع مؤنث	مَضْرُوبَاتٌ
مارے ہوئے سب مرد	جمع مذکر مُكْسَرٌ	مَضَارِيبٌ
مارا ہوا ایک چھوٹا مرد	واحد مذکر مُصَغَّرٌ	مُضِيرِيبٌ
ماری ہوئی ایک چھوٹی عورت	واحد مؤنث مُصَغَّرَةٌ	مُضِيرِيْبَةٌ

## اسم تفضیل

ترجمہ	صیغہ	اسم تفضیل
زیادہ مارنے والا ایک مرد	واحد مذکر	أَضْرَبُ
زیادہ مارنے والے دو مرد	تثنیہ مذکر	أَضْرَبَانِ
زیادہ مارنے والے سب مرد	جمع مذکر	أَضْرَابُونَ
زیادہ مارنے والے سب مرد	جمع مذکر مُكْسَرٌ	أَضْرَابُ
زیادہ مارنے والا ایک مرد	واحد مذکر مُصَغَّرٌ	أَضْرِبُ
زیادہ مارنے والی ایک عورت	واحد مؤنث	ضُرْبِي
زیادہ مارنے والی دو عورتیں	تثنیہ مؤنث	ضُرْبِيَانِ
زیادہ مارنے والی سب عورتیں	جمع مؤنث	ضُرْبِيَّاتُ
زیادہ مارنے والی سب عورتیں	جمع مؤنث مُكْسَرٌ	ضُرْبُ
زیادہ مارنے والی ایک چھوٹی عورت	واحد مؤنث مُصَغَّرٌ	ضُرْبِيَا

## اسم ظرف

ترجمہ	صیغہ	اسم ظرف
مارنے کا ایک وقت یا جگہ	واحد	مَضْرِبٌ
مارنے کے دو وقت یا جگہیں	تشبیہ	مَضْرِبَانِ
مارنے کے سب وقت یا جگہیں	جمع مکسر	مَضَارِبُ
مارنے کا ایک وقت یا جگہ	واحد مصغر	مُضْرِبٌ

## اسم آلہ

ترجمہ	صیغہ	اسم آلہ
مارنے کا ایک چھوٹا آلہ	واحد	مُضْرِبٌ (صغریٰ)
مارنے کے دو چھوٹے آلے	تثنیہ	مِضْرَبَانِ (صغریٰ)
مارنے کے سب چھوٹے آلے	جمع	مِضْرَابٌ (صغریٰ)
مارنے کا ایک چھوٹا آلہ	واحد مصغر	مُضْرِبٌ (صغریٰ)
مارنے کا ایک درمیانہ آلہ	واحد	مِضْرَبَةٌ (وسطیٰ)
مارنے کے دو چھوٹے آلے	تثنیہ	مِضْرَبَتَانِ (وسطیٰ)
مارنے کے سب چھوٹے آلے	جمع	مِضْرَابٌ (وسطیٰ)
مارنے کا ایک درمیانہ آلہ	واحد مصغر	مُضْرِبَةٌ (وسطیٰ)
مارنے کا ایک بڑا آلہ	واحد	مِضْرَابٌ (کبریٰ)
مارنے کے دو بڑے آلے	تثنیہ	مِضْرَابَانِ (کبریٰ)
مارنے کے سب بڑے آلے	جمع	مِضْرَابٌ (کبریٰ)
مارنے کا ایک بڑا آلہ	واحد مصغر	مُضْرِبٌ (کبریٰ)

# فعل کی اقسام

## حروفِ اصلی کی تعداد کے اعتبار سے

حروفِ اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔

1- فعل ثلاثی      2- فعل رباعی

**فعل ثلاثی** : وہ فعل ہے، جس کے حروفِ اصلی تین ہوں۔ جیسے نَصَرَ

**فعل رباعی** : وہ فعل ہے، جس کے حروفِ اصلی چار ہوں۔ جیسے دَحْرَجَ  
پھر فعل ثلاثی کی بھی دو قسمیں ہیں۔

1- فعل ثلاثی مجرد      2- فعل ثلاثی مزید فیہ

**فعل ثلاثی مجرد** : وہ فعل ثلاثی ہے جس میں صرف تین حروفِ اصلی ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔

**فعل ثلاثی مزید فیہ** : وہ فعل ثلاثی ہے جس میں تین حروفِ اصلی کے علاوہ زائد حروف بھی ہوں۔

# فعل ثلاثی مجرد مطرد

فعل ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں۔

فعل ثلاثی مجرد مطرد      فعل ثلاثی مجرد شاذ

فعل ثلاثی مجرد مُطَّرِدٌ جس کے وزن زیادہ آئیں اور یہ پانچ باب ہیں۔

الْبَابُ الْأَوَّلُ	فَعَلَ يَفْعُلُ	جیسے	نَصَرَ يَنْصُرُ
الْبَابُ الثَّانِي	فَعَلَ يَفْعِلُ	جیسے	ضَرَبَ يَضْرِبُ
الْبَابُ الثَّلَاثُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	جیسے	سَمِعَ يَسْمَعُ
الْبَابُ الرَّابِعُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	جیسے	فَتَحَ يَفْتَحُ
الْبَابُ الْخَامِسُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	جیسے	كَرَّمَ يَكْرُمُ

# الْبَابُ الْأَوَّلُ : نَصَرَ يَنْصُرُ

## صرف صغير

نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا فَهُوَ نَاصِرٌ

وَنُصِرَ يَنْصُرُ نَصْرًا فَذَلِكَ مَنْصُورٌ

لَمْ يَنْصُرْ لَمْ يَنْصُرْ لَا يَنْصُرُ لَا يَنْصُرُ

لَنْ يَنْصُرَ لَنْ يَنْصُرَ

لَيَنْصُرَنَّ لَيَنْصُرَنَّ لَيَنْصُرَنَّ لَيَنْصُرَنَّ

## الْأَمْرُ مِنْهُ

انصُرْ لِتَنْصُرَ لِيَنْصُرَ لِيَنْصُرَ

## وَالنَّفْيُ عَنْهُ

لَا تَنْصُرْ لَا تَنْصُرْ لَا يَنْصُرْ لَا يَنْصُرْ

## الظَّرْفُ مِنْهُ

مَنْصِرٌ مَنْصِرَانِ مَنْاصِرٌ مَنِصِرٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الصُّغْرَى

مِنْصِرٌ مِنْصِرَانِ مَنْاصِرٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْوُسْطَى

مِنْصِرَةٌ مِنْصِرَتَانِ مَنْاصِرٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْكُبْرَى

مِنْصَارٌ مِنْصَارَانِ مَنْاصِيرٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَذَكَّرُ مِنْهُ

أَنْصَرُ أَنْصِرَانِ أَنْصِرُونَ أَنْاصِرُ أَنْيَصِرُ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُوَنَّثُ مِنْهُ

نُصِرْتُ نُصِرْتَانِ نُصِرْتَانِ نُصِرْتُ نُصِرْتَانِ نُصِرْتَانِ

وَفِعْلُ التَّعْجِبِ مِنْهُ

مَا أَنْصَرَهُ وَأَنْصِرْ بِهِ



# الْبَابُ الثَّانِي : ضَرَبَ يَضْرِبُ

## صرف صغير

ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا فَهُوَ ضَارِبٌ  
 وَ ضُرِبَ يُضْرَبُ ضَرْبًا فَذَاكَ مَضْرُوبٌ  
 لَمْ يَضْرِبْ لَمْ يُضْرَبْ لَا يَضْرِبُ لَا يُضْرَبُ  
 لَنْ يَضْرِبَ لَنْ يُضْرَبَ  
 لِيَضْرِبَنَّ لِيُضْرَبَنَّ لِيُضْرَبَنَّ  
 الْأَمْرُ مِنْهُ

إِضْرِبْ لِتَضْرِبَ لِضَرْبٍ لِيُضْرَبَ  
 وَالنَّفْيُ عَنْهُ  
 لَا تَضْرِبْ لَا تُضْرَبْ لَا يَضْرِبْ لَا يُضْرَبُ  
 الظَّرْفُ مِنْهُ

مَضْرِبٌ مَضْرِبَانِ مَضَارِبٌ وَ مَضْرِبٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الصُّغْرَى

مِضْرَبٌ مِضْرَبَانِ مِمَّارِبٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْوُسْطَى

مِضْرَبَةٌ مِضْرَبَتَانِ مِمَّارِبٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْكُبْرَى

مِضْرَابٌ مِضْرَابَانِ مِمَّارِيبٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَذَكَّرُ مِنْهُ

أَضْرَبُ أَضْرَبَانِ أَضْرَبُونَ أَضَارِبُ أُضِيرُ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُوَنَّثُ مِنْهُ

ضُرِبِي ضُرِبِيَانِ ضُرِبِيَاتٌ ضُرِبُ ضُرَيْبِي

وَ فِعْلُ التَّعْجُبِ مِنْهُ

مَا أَضْرَبَهُ وَ أَضْرِبُ بِهِ

# الْبَابُ الثَّلَاثُ : سَمِعَ يَسْمَعُ

## صرف صغير

سَمِعَ يَسْمَعُ سَمِعًا فَهُوَ سَامِعٌ  
 وَ سَمِعَ يَسْمَعُ سَمِعًا فَذَلِكَ مَسْمُوعٌ  
 لَمْ يَسْمَعْ لَمْ يَسْمَعْ لَا يَسْمَعُ لَا يُدْمَعُ  
 لَنْ يَسْمَعَ لَنْ يُدْمَعَ

لَيْسَمَعَنَّ لَيْسَمَعَنَّ لَيْسَمَعَنَّ لَيْسَمَعَنَّ

## الْأَمْرُ مِنْهُ

اسْمَعْ لِتَسْمَعَ لَيْسَمَعْ لَيْسَمَعْ

## وَالنَّفْيُ عَنْهُ

لَا تَسْمَعْ لَا تَسْمَعْ لَا يَسْمَعْ لَا يُدْمَعُ

## الظَّرْفُ مِنْهُ

مَسْمَعٌ مَسْمَعَانِ مَسَامِعٌ مَسِيعٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الصُّغْرَى

مِسْمَعٌ مِسْمَعَانِ مَسَامِعٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْوُسْطَى

مِسْمَعَةٌ مِسْمَعَتَانِ مَسَامِعٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْكُبْرَى

مِسْمَاعٌ مِسْمَاعَانِ مَسَامِيعٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَذَكَّرُ مِنْهُ

أَسْمَعُ أَسْمَعَانِ أَسْمَعُونَ أَسَامِعٌ أَسِيعٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُوَنَّثُ مِنْهُ

سَمِعَى سَمِعْيَانِ سَمِعِيَّاتٌ سَمِعٌ سَمِيعِي

وَفِعْلُ التَّعْجِبِ مِنْهُ

مَا أَسْمَعُهُ وَ أَسْمِعُ بِهِ

# الْبَابُ الرَّابِعُ : فَتَحَ يَفْتَحُ

## صرف صغير

فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا فَهُوَ فَاتِحٌ

وَ فَتْحٌ يَفْتَحُ فَتْحًا فَذَاكَ مَفْتُوحٌ

لَمْ يَفْتَحْ لَمْ يَفْتَحْ لَا يَفْتَحُ لَا يَفْتَحُ

لَنْ يَفْتَحَ لَنْ يَفْتَحَ

لِيَفْتَحَنَّ لِيَفْتَحَنَّ لِيَفْتَحَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ

اِفْتَحْ لِتَفْتَحَ لِتَفْتَحَ لِتَفْتَحَ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ

لَا تَفْتَحْ لَا تَفْتَحْ لَا يَفْتَحْ لَا يَفْتَحْ

الظَّرْفُ مِنْهُ

مَفْتَحٌ مِفْتَاحَانِ مَفَاتِحُ مَفِيحٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الصُّغْرَى

مِفْتَحٌ مِفْتَاحَانِ مَفَاتِحُ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْوَسْطَى

مِفْتَاحَةٌ مِفْتَاحَتَانِ مَفَاتِحُ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْكُبْرَى

مِفْتَاحٌ مِفْتَاحَانِ مَفَاتِيحٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَذَكَّرُ مِنْهُ

أَفْتَحُ أَفْتَحَانِ أَفْتَحُونَ أَفَاتِحُ أَفِيحٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُوَنَّثُ مِنْهُ

فُتِحَ فُتِحِيَانِ فُتِحِيَاتٌ فُتِحٌ فُتِيحِي

وَفِعْلُ التَّعْجُبِ مِنْهُ

مَا أَفْتَحَهُ وَأَفْتِحُ بِهِ

# الْبَابُ الْخَامِسُ : بَابُ كَرَّمَ يَكْرُمُ

## صرف صغير

كَرَّمَ يَكْرُمُ كَرَمًا فَهَوَّ كَرِيمٌ  
 لَمْ يَكْرُمْ لَمْ يَكْرَمْ لَا يَكْرُمُ لَا يَكْرُمُ  
 لَنْ يَكْرُمَ لَنْ يَكْرَمَ  
 لِيَكْرُمَنَّ لِيَكْرَمَنَّ لِيَكْرُمَنَّ لِيَكْرَمَنَّ

## الْأَمْرُ مِنْهُ

اَكْرُمْ لِيَكْرُمْ لِيَكْرَمْ لِيَكْرُمْ لِيَكْرَمْ

## وَالنَّفْيُ عَنْهُ

لَا تَكْرُمْ لَا يَكْرُمْ لَا تَكْرَمْ لَا يَكْرَمْ

## الظَّرْفُ مِنْهُ

مَكْرَمٌ مَكْرَمَانِ مَكْرَامٌ مَكْرِيمٌ

## وَالْآلَةُ مِنْهُ الصَّغْرَى

مَكْرَمٌ مَكْرَمَانِ مَكَارِمٌ  
 وَآلَةٌ مِنْهُ الْوَسْطَى  
 مِكْرَمَةٌ مِكْرَمَتَانِ مَكَارِمٌ  
 وَآلَةٌ مِنْهُ الْكِبْرَى  
 مِكْرَامٌ مِكْرَامَانِ مَكَارِيمٌ  
 أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَذَكَّرُ مِنْهُ  
 أَكْرَمُ أَكْرَمَانِ أَكْرَمُونَ أَكْرَامٌ أَكْرِيمٌ  
 أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَوْثَقُ مِنْهُ  
 كُرْمِي كُرْمِيَانِ كُرْمِيَاتٌ كُرْمٌ كُرَيْمِي  
 وَفِعْلُ التَّعْجِبِ مِنْهُ  
 مَا أَكْرَمَهُ مَا أَكْرِمُ بِهِ



# فعل ثلاثی مجرد شاذُ

فعل ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں۔

فعل ثلاثی مجرد شاذ

فعل ثلاثی مجرد مطرد

فعل ثلاثی مجرد مطرد کی تعریف اور اقسام پہلے گزر چکی ہیں۔

فعل ثلاثی مجرد شاذُ : وہ فعل ثلاثی مجرد ہے جس کے وزن کم آئیں اور یہ تین

باب ہیں۔

حَسِبَ يَحْسِبُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	الْبَابُ الْأَوَّلُ
فَضَلَ يَفْضَلُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	الْبَابُ الثَّانِي
كَوَدَ يَكْوُدُ (كَادَ يَكَادُ)	فَعَلَ يَفْعَلُ	الْبَابُ الثَّلَاثُ

# الْبَابُ الْأَوَّلُ : حَسِبَ يَحْسِبُ

## صرف صغير

حَسِبَ يَحْسِبُ حَسَبًا فَهُوَ حَاسِبٌ  
 وَ حُسِبَ يُحْسَبُ حَسَبًا فَذَاكَ مَحْسُوبٌ  
 لَمْ يَحْسِبْ لَمْ يُحْسَبْ لَا يَحْسِبُ لَا يُحْسَبُ  
 لَنْ يَحْسِبَ لَنْ يُحْسَبَ

لِيَحْسِبَنَّ لِيُحْسَبَنَّ لِيَحْسِبَنَّ لِيُحْسَبَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ

إِحْسِبْ لِتَحْسَبْ لِيَحْسِبْ لِيُحْسَبْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ

لَا تَحْسِبْ لَا تُحْسَبْ لَا يَحْسِبْ لَا يُحْسَبْ

الظَّرْفُ مِنْهُ

مَحْسِبٌ مَحْسِبَانِ مَحَاسِبٌ وَ مَحْسِيبٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الصُّغْرَى

مِحْسَبٌ مِحْسَبَانِ مَحَاسِبٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْوُسْطَى

مِحْسَبَةٌ مِحْسَبَتَانِ مَحَاسِبٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْكُبْرَى

مِحْسَابٌ مِحْسَابَانِ مَحَاسِيبٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَذَكَّرُ مِنْهُ

أَحْسَبُ أَحْسَبَانِ أَحْسَبُونَ أَحَاسِبٌ أَحْسِيبٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُوَنَّثُ مِنْهُ

حُسِبِي حُسْبِيَانِ حُسْبِيَاتٌ حُسْبٌ حُسْبِي

وَفِعْلُ التَّعْجِبِ مِنْهُ

مَا أَحْسَبَهُ وَ أَحْسِبُ بِهِ

# الْبَابُ الثَّانِي: فَضْلٌ يَفْضُلُ

## صرف صغير

فَضِلٌ يَفْضُلُ فَضُلًا فَهُوَ فَاضِلٌ  
 وَ فَضِلٌ يَفْضُلُ فَضُلًا فَذَاكَ مَفْضُولٌ  
 لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَفْضَلْ لَا يَفْضُلُ لَا يَفْضَلُ  
 لَنْ يَفْضَلَ لَنْ يَفْضَلَ  
 لِيَفْضَلَنَّ لِيَفْضَلَنَّ لِيَفْضَلَنَّ

## الْأَمْرُ مِنْهُ

أَفْضُلْ لِتَفْضَلَ لِیَفْضَلَ لِیَفْضَلَ

## وَالنَّفْيُ عَنْهُ

لَا تَفْضُلْ لَا تَفْضَلْ لَا يَفْضُلْ لَا يَفْضَلْ

## الظَّرْفُ مِنْهُ

مَفْضَلٌ

وَأَلَاةٌ مِنْهُ الصُّغْرَى

مِفْضَلٌ مِفْضَلَانِ مِفْاضِلٌ

وَأَلَاةٌ مِنْهُ الْوُسْطَى

مِفْضَلَةٌ مِفْضَلَتَانِ مِفْاضِلٌ

وَأَلَاةٌ مِنْهُ الْكُبْرَى

مِفْضَالٌ مِفْضَالَانِ مِفْاضِيلٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَذَكَّرُ مِنْهُ

أَفْضَلُ أَفْضَلَانِ أَفْضَلُونَ أَفَاضِلٌ أَفِضِلٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَوْنَّثُ مِنْهُ

فُضِّلِي فُضِّلِيَانِ فُضِّلِيَاتٌ فُضِّلٌ فُضِّلِي

وَفِعْلُ التَّعْجِبِ مِنْهُ

مَا أَفْضَلَهُ وَ أَفْضِلُ بِهِ

# الْبَابُ الثَّلَاثُ: كَادَ يَكَادُ

## صرف صغير

كَادَ يَكَادُ كَوْدًا فَهُوَ كَائِدٌ

وَكَيْدٌ يَكَادُ كَوْدًا فَذَلِكَ مَكُودٌ

لَمْ يَكْدُ لَمْ يَكْدُ لَا يَكَادُ لَا يَكَادُ

لَنْ يَكُودَ لَنْ يَكُودَ

لَيَكُودَنَّ لَيَكُودَنَّ لَيَكُودَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ

كَدٌ لَتَكْدُ لَيَكْدُ لَيَكْدُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ

لَا تَكْدُ لَا تَكْدُ لَا يَكْدُ لَا يَكْدُ

الظَّرْفُ مِنْهُ

مَكَادُ

وَالآلَةُ مِنْهُ الصُّغْرَى

مِكْوَدُ مِكْوَدَانٍ مَكَاوِدُ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْوُسْطَى

مِكْوَدَةٌ مِكْوَدَتَانٍ مَكَاوِدُ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْكُبْرَى

مِكْوَادُ مِكْوَادَانٍ مَكَاوِيدُ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَذَكَّرُ مِنْهُ

اَكْوَدُ اَكْوَدَانٍ اَكْوَدُونَ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُوَنَّثُ مِنْهُ

كُوْدَى كُوْدِيَانٍ كُوْدِيَاتٌ اَكَاوِدُ كُوْدُ

وَفِعْلُ التَّعَجُّبِ مِنْهُ

مَا اَكْوَدَةٌ وَاكْوَدُ بِهِ

# فعل ثلاثی مزید فیہ

**فعل ثلاثی مزید فیہ:** وہ فعل ثلاثی ہے جس میں تین حروفِ اصلی کے علاوہ زائد حروف بھی ہوں۔

**فعل ثلاثی مزید فیہ** کی بھی دو قسمیں ہیں۔

1۔ مُلْحِقُ بَرُبَاعِي

2۔ غَيْرُ مُلْحِقُ بَرُبَاعِي

**غَيْرُ مُلْحِقُ بَرُبَاعِي** کی بھی دو قسمیں ہیں۔

1۔ ایک وہ قسم کہ جس میں ہمزہ وصل آتا ہے۔

2۔ دوسری وہ قسم کہ جس میں ہمزہ وصل نہیں آتا ہے۔



# فعل ثلاثی مزید فیہ

## (ہمزہ وصل کے ساتھ)

وہ فعل ثلاثی مزید فیہ جس میں ہمزہ وصل آتا ہے۔ اس کے 9 باب ہیں۔

چینا	اجْتَنَبَ	اِفْتَعَلَ	اَلْبَابُ الْاَوَّلُ
مدد مانگنا	اِسْتَنْصَرَ	اِسْتَفْعَلَ	اَلْبَابُ الثَّانِي
پھٹنا	اِنْفَطَرَ	اِنْفَعَلَ	اَلْبَابُ الثَّلَاثُ
سرخ ہونا	اِحْمَرَّ	اِفْعَلَّ	اَلْبَابُ الرَّابِعُ
سیاہ ہونا	اِذْهَمَّ	اِفْعِيَلَّ	اَلْبَابُ الْخَامِسُ
سخت کھر درا ہونا	اِحْشَشَانُ	اِفْعِيَعَلَ	اَلْبَابُ السَّادِسُ
اونٹ کا تیز چلنا	اِحْلَوَّ	اِفْعَوَّ	اَلْبَابُ السَّابِعُ
بوجھل ہونا	اِثْقَلَ	اِفَاعَلَ	اَلْبَابُ الثَّامِنُ
پاک ہونا	اِطَهَّرَ	اِفْعَّلَّ	اَلْبَابُ التَّاسِعُ

# الْبَابُ الْأَوَّلُ: افْتِعَالٌ

## صرف صغير

اجْتَنَبَ (بِحَا)

اجْتَنَبَ يَجْتَنِبُ اجْتِنَابًا فَهُوَ مُجْتَنَبٌ

وَاجْتَنَبُ يَجْتَنِبُ اجْتِنَابًا فَذَاكَ مُجْتَنَبٌ

لَمْ يَجْتَنِبْ لَمْ يَجْتَنِبْ لَا يَجْتَنِبُ لَا يُجْتَنَبُ

لَنْ يَجْتَنِبَ لَنْ يُجْتَنَبَ

لِيَجْتَنِبَنَّ لِيَجْتَنِبَنَّ لِيَجْتَنِبَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اجْتَنِبْ لِتَجْتَنِبَ لِيَجْتَنِبَ لِيَجْتَنِبَ

وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَجْتَنِبْ لَا تُجْتَنَبْ

لَا يَجْتَنِبْ لَا يُجْتَنَبْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُجْتَنَبٌ-

# الْبَابُ الثَّانِي: اسْتَفْعَالٌ

## صرف صغير

اسْتِنَصَرَ (مدد مانگنا)

اسْتِنَصَرَ يَسْتِنَصِرُ اسْتِنَصَارًا فَهُوَ مُسْتِنَصِرٌ

وَاسْتِنَصِرْ يَسْتِنَصِرْ اسْتِنَصَارًا فَذَٰكَ مُسْتِنَصِرٌ

لَمْ يَسْتِنَصِرْ لَمْ يَسْتِنَصِرْ لَا يَسْتِنَصِرُ لَا يَسْتِنَصِرُ

لَنْ يَسْتِنَصِرَ لَنْ يَسْتِنَصِرَ

لَيْسَتْ يَسْتِنَصِرَنَّ لَيْسَتْ يَسْتِنَصِرَنَّ لَيْسَتْ يَسْتِنَصِرَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اسْتِنَصِرْ لَسْتِنَصِرْ لَيْسْتِنَصِرْ لَيْسْتِنَصِرْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَسْتِنَصِرْ لَا تَسْتِنَصِرْ

لَا يَسْتِنَصِرْ لَا يَسْتِنَصِرْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُسْتِنَصِرٌ

# الْبَابُ الثَّلَاثُ: اِنْفَعَالٌ

صرف صغير

اِنْفِطَارٌ (يُحْطِنَا)

اِنْفَطَرَ يَنْفَطِرُ اِنْفِطَارًا

فَقَوْ مُنْفَطِرٌ

لَمْ يَنْفَطِرْ لَا يَنْفَطِرُ لَنْ يَنْفَطِرَ

لَيَنْفَطِرَنَّ لَيَنْفَطِرَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اِنْفِطِرْ لَيَنْفَطِرْ

وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَنْفَطِرْ لَا يَنْفَطِرْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُنْفَطِرٌ

# الْبَابُ الرَّابِعُ: اِفْعَالٌ

## صرف صغير

اِحْمِرَارٌ (سرخ هونا)

اِحْمَرَّ يَحْمَرُّ اِحْمِرَارًا

فَقُوْ مُحْمَرٌّ

لَمْ يَحْمَرِّ لَا يَحْمَرُّ لَنْ يَحْمَرِّ

لَيَحْمَرْنَ لَيَحْمَرْنَ

الْأَمْرُ مِنْهُ اِحْمَرَّ اِحْمِرَّ اِحْمِرِّ

لِيَحْمَرَّ لِيَحْمَرَّ لِيَحْمَرِّ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَحْمَرَّ لَا تَحْمَرِّ لَا تَحْمَرُّ

لَا يَحْمَرَّ لَا يَحْمَرِّ لَا يَحْمَرُّ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُحْمَرٌّ

# الْبَابُ الْخَامِسُ: اِفْعِيلًا

صرف صغير

اِذْهِمَّامٌ (سياه هونا)

اِذْهَامٌ يَذْهَمُ اِذْهِمَّامًا

فَقَوْ مَذْهَامٌ

لَمْ يَذْهَمِمْ لَّا يَذْهَمُ لَنْ يَذْهَمِمْ

لَيَذْهَمَنَّ لَيَذْهَمَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اِذْهَامٌ اِذْهَامٌ اِذْهَامِمْ

لَيَذْهَمَنَّ لَيَذْهَمَنَّ لَيَذْهَمِمْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَّا تَذْهَمَنَّ لَّا تَذْهَمَنَّ لَّا تَذْهَمِمْ

لَّا يَذْهَمَنَّ لَّا يَذْهَمَنَّ لَّا يَذْهَمِمْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مَذْهَامٌ

# الْبَابُ السَّادِسُ: اِفْعِيْعَالٌ<sup>28</sup>

## صرف صغير

اِحْشِيْشَانٌ (سخت کھر دراهونا)

اِحْشَوْشَنَ يَحْشَوْشِنُ اِحْشِيْشَانًا

فَقُوْ مُحْشَوْشِنٌ

لَمْ يَحْشَوْشِنُ لَا يَحْشَوْشِنُ لَنْ يَحْشَوْشِنَ

لَيَحْشَوْشِنَنَّ لَيَحْشَوْشِنَنَّ

اَلْاَمْرُ مِنْهُ اِحْشَوْشِنٌ لَيَحْشَوْشِنُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَحْشَوْشِنُ لَا يَحْشَوْشِنُ

اَلظَّرْفُ مِنْهُ مُحْشَوْشِنٌ

# الْبَابُ السَّابِعُ: اِفْعَوَالٌ

## صرف صغير

اجْلُوْاْذُ (اونٹ کا تیز چلنا)

اجْلُوْذٌ يَجْلُوْذُ اجْلُوْاْذًا

فَعُوْ مُجْلُوْذٌ

لَمْ يَجْلُوْذْ لَا يَجْلُوْذُ لَنْ يَجْلُوْذَ

لَيَجْلُوْذَنَّ لَيَجْلُوْذَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اجْلُوْذُ لَيَجْلُوْذُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَجْلُوْذُ لَا يَجْلُوْذُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُجْلُوْذٌ



# أَلْبَابُ النَّامِنُ : إِفَاعُلٌ

صرف صغير

إِثَّاقُلٌ (بوجهل هونا)

إِثَّاقُلٌ يَثَّاقُلُ إِثَّاقُلًا

فَعُوْا مُثَّاقِلٌ

لَمْ يَثَّاقُلْ لَا يَثَّاقُلْ لَنْ يَثَّاقُلَ

كَيْثَاقِلَنْ كَيْثَاقِلَنْ

أَلْأَمْرُ مِنْهُ إِثَّاقُلٌ لِيَثَّاقُلُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَثَّاقُلُ لَا يَثَّاقُلُ

أَلْظَرْفُ مِنْهُ مُثَّاقِلٌ

# الْبَابُ التَّاسِعُ: اِفْعَلُ

صرف صغير

اِطَّهَّرُ (پاک ہونا)

اِطَّهَّرَ يَطَّهِّرُ اِطَّهَّرًا

فَعَوَ مَطَّهَّرٌ

لَمْ يَطَّهَّرْ لَا يَطَّهِّرُ لَنْ يَطَّهَّرَ

لَيَطَّهِّرَنَّ لَيَطَّهِّرَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اِطَّهَّرْ لَيَطَّهَّرْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَطَّهَّرْ لَا يَطَّهَّرْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مَطَّهَّرٌ

# فعل ثلاثی مزید فیہ

## (ہمزہ وصل کے بغیر)

وہ فعل ثلاثی مزید فیہ جس میں ہمزہ وصل نہیں آتا، اس کے 5 باب ہیں

عزت کرنا	اِكْرَامٌ	اِفْعَالٌ	اَلْبَابُ الْاَوَّلُ :
پھیرنا	تَصْرِيفٌ	تَفْعِيلٌ	اَلْبَابُ الثَّانِي :
قبول کرنا	تَقْبُلٌ ،	تَفْعُلٌ	اَلْبَابُ الثَّلَاثُ :
ایک دوسرے کے سامنے ہونا	تَقَابُلٌ	تَفَاعُلٌ	اَلْبَابُ الرَّابِعُ :
ایک دوسرے سے لڑنا	مُقَاتَلَةٌ	مُفَاعَلَةٌ	اَلْبَابُ الْخَامِسُ :

# الْبَابُ الْأَوَّلُ : اِفْعَالٌ

## صرف صغير

اِكْرَامٌ (عزت كرنا)

اِكْرَمَ يُكْرِمُ اِكْرَامًا فَهُوَ مُكْرِمٌ

وَ اِكْرِمَ يُكْرِمُ اِكْرَامًا فَذَاكَ مُكْرِمٌ

لَمْ يُكْرِمْ لَمْ يُكْرِمْ لَا يُكْرِمُ لَا يُكْرِمُ

لَنْ يُكْرِمَ لَنْ يُكْرِمَ

لِيُكْرِمَنَّ لِيُكْرِمَنَّ لِيُكْرِمَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اِكْرِمْ لِتُكْرِمَ لِیُكْرِمَ لِیُكْرِمَ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تُكْرِمُ لَا تُكْرِمُ لَا يُكْرِمُ لَا يُكْرِمُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُكْرِمٌ

# الْبَابُ الثَّانِي: تَفْعِيلُ

## صرف صغير

تَصْرِيْفٌ (پھیرنا)

صَرَّفَ يُصَرِّفُ تَصْرِيْفًا فَهُوَ مُصَرِّفٌ

وَ صُرِّفَ يُصَرِّفُ تَصْرِيْفًا فَذَاكَ مُصَرِّفٌ

لَمْ يُصَرِّفْ لَمْ يُصَرِّفْ لَا يُصَرِّفُ لَا يُصَرِّفُ

لَنْ يُصَرِّفَ لَنْ يُصَرِّفَ

لِيُصَرِّفَنَّ لِيُصَرِّفَنَّ لِيُصَرِّفَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ صَرِّفْ لِتَصَرِّفْ لِيُصَرِّفْ لِيُصَرِّفْ

وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُصَرِّفْ لَا تُصَرِّفْ

لَا يُصَرِّفْ لَا يُصَرِّفْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُصَرِّفٌ

# الْبَابُ الثَّلَاثُ: تَفَعَّلُ

صرف صغير

تَقَبَّلُ (قبول کرنا)

تَقَبَّلَ يَتَقَبَّلُ تَقَبُّلاً فَهُوَ مُتَقَبَّلٌ

وَتُقَبَّلُ يُتَقَبَّلُ تَقَبُّلاً فَذَاكَ مُتَقَبَّلٌ

لَمْ يَتَقَبَّلْ لَمْ يُتَقَبَّلْ لَا يَتَقَبَّلُ لَا يُتَقَبَّلُ

لَنْ يَتَقَبَّلَ لَنْ يُتَقَبَّلَ

لِيَتَقَبَّلَنَّ لِيَتَقَبَّلَنَّ لِيَتَقَبَّلَنَّ لِيَتَقَبَّلَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ تَقَبَّلْ لِتَقَبَّلْ لِيَتَقَبَّلْ لِيَتَقَبَّلْ

وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَتَقَبَّلْ لَا تُتَقَبَّلْ

لَا يَتَقَبَّلْ لَا يُتَقَبَّلْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُتَقَبَّلٌ

# الْبَابُ الرَّابِعُ: تَفَاعُلٌ

## صرف صغير

تَقَابَلُ (ایک دوسرے کے سامنے ہونا)

تَقَابَلُ يَتَقَابَلُ تَقَابُلًا فَهُوَ مُتَقَابِلٌ

وَتُقَابِلُ يَتُقَابِلُ تَقَابِلًا فَذَاكَ مُتَقَابِلٌ

لَمْ يَتَقَابَلْ لَمْ يَتَقَابَلْ لَا يَتَقَابَلُ لَا يُتَقَابَلُ

لَنْ يَتَقَابَلَ لَنْ يُتَقَابَلَ

لِيَتَقَابَلَ لِيَتَقَابَلَ لِيَتَقَابَلَ لِيَتَقَابَلَ

الْأَمْرُ مِنْهُ تَقَابَلْ لَتَقَابَلْ لِيَتَقَابَلْ لِيَتَقَابَلْ

وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَقَابَلْ لَا تَقَابَلْ

لَا يَتَقَابَلْ لَا يُتَقَابَلْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُتَقَابِلٌ

# الْبَابُ الْخَامِسُ : مُفَاعَلَةٌ

## صرف صغير

مُقَاتَلَةٌ (ایک دوسرے سے لڑنا)

قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةٌ فَهُوَ مُقَاتِلٌ

وَقُوَّتِلَ يُقَاتَلُ مُقَاتَلَةٌ فَذَاكَ مُقَاتِلٌ

لَمْ يُقَاتِلْ لَمْ يُقَاتَلْ لَا يُقَاتِلُ لَا يُقَاتَلُ

لَنْ يُقَاتِلَ لَنْ يُقَاتَلَ

لِيُقَاتِلَنَّ لِيُقَاتَلَنَّ لِيُقَاتِلَنَّ لِيُقَاتَلَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ قَاتِلْ لَتُقَاتِلْ لِيُقَاتِلْ لِيُقَاتَلْ

وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُقَاتِلْ لَا تُقَاتَلْ لَا يُقَاتِلْ لَا يُقَاتَلْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُقَاتِلٌ



# فعل رباعی

**فعل رباعی** : وہ فعل ہے، جس کے حروفِ اصلی چار ہوں۔ جیسے ذَحْرَجَ  
فعل رباعی کی دو قسمیں ہیں۔

فعل رباعی مزید فیہ

فعل رباعی مجرد

**فعل رباعی مجرد** : وہ فعل ہے، جس کے حروفِ اصلی چار ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو  
فَعَلَّلَهُ جیسے بَعَثَهُ

**فعل رباعی مزید فیہ** : وہ فعل ہے، جس کے حروفِ اصلی چار ہوں اور کوئی حرف  
زائد بھی ہو۔

اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔

1- ایک وہ جس میں ہمزه وصل نہ ہو۔ اس کا ایک ہی باب ہے۔

تَفَعَّلُ      تَسَرَّبُ

2- دوسرا وہ جس میں ہمزه وصل ہو اس کے 2 باب ہیں۔

إِفْعَلَلُ      إِبْرِنَشَأُ  
إِفْعَلَلَلُ      إِفْشَعَرَارُ

# فعل رباعي مجرد: فَعَلَّةٌ

## صرف صغير

بَعَثَرَةٌ (برائجختہ کرنا، اُبھارنا)

بَعَثَرٌ يَبْعَثِرُ بَعَثَرَةً فَهُوَ مَبْعَثِرٌ

بَعَثِرَ يَبْعَثِرُ بَعَثَرَةً فَذَٰكَ مَبْعَثِرٌ

لَمْ يَبْعَثِرْ لَمْ يَبْعَثِرْ لَا يَبْعَثِرُ لَا يَبْعَثِرُ

لَنْ يَبْعَثِرَ لَنْ يَبْعَثِرَ

لَيَبْعَثِرَنَّ لَيَبْعَثِرَنَّ لَيَبْعَثِرَنَّ لَيَبْعَثِرَنَّ

أَلَا مَرُّ مِنْهُ بَعَثِرٌ لَتَبْعَثِرَ لَيَبْعَثِرُ لَيَبْعَثِرُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَبْعَثِرُ لَا تَبْعَثِرُ لَا يَبْعَثِرُ لَا يَبْعَثِرُ

أَلْظَرْفُ مِنْهُ مَبْعَثِرٌ

# فعل رباعی مزید فیہ : تَفَعَّلُ

صرف صغیر (برے ہمزہ وصل)

تَسْرُبُلٌ (قمیص پہننا)

تَسْرُبُلٌ يَتَسْرُبُلُ تَسْرُبُلًا فَهُوَ مُتَسْرِبٌ

لَمْ يَتَسْرِبْ لَا يَتَسْرِبُ لَنْ يَتَسْرِبَ

لَيَتَسْرِبَنَّ لَيَتَسْرِبَنَّ

أَلَا مَرُّ مِنْهُ تَسْرِبٌ لِيَتَسْرِبَ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَتَسْرِبُ لَا يَتَسْرِبُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُتَسْرِبٌ

# فعل رباعي مزيد فيه: اِفْعِنَالٌ

صرف صغير (با همزه وصل)

اِبْرُنَشَاقٌ (خوش هونا)

اِبْرُنَشِقُ يِبْرُنَشِقُ اِبْرُنَشَاقًا فَعُو مِبْرُنَشِقُ

لَمْ يِبْرُنَشِقْ لَا يِبْرُنَشِقُ لَنْ يِبْرُنَشِقَ

لَيِبْرُنَشِقَنَّ لَيِبْرُنَشِقَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اِبْرُنَشِقُ لَيِبْرُنَشِقُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تِبْرُنَشِقُ لَا يِبْرُنَشِقُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مِبْرُنَشِقُ

# فعل رباعی مزید فیہ: اِفْعَلَّالُ

صرف صغیر (با ہمزه وصل)

اِفْشَعْرَارٌ (روئے کھڑے ہونا)

اِفْشَعْرٌ يَفْشَعِرُ اِفْشَعْرَارًا فَفَوْ مُفْشَعِرٌ

لَمْ يَفْشَعِرْ لَا يَفْشَعِرُ لَنْ يَفْشَعِرَ

لَيَفْشَعِرَنَّ لَيَفْشَعِرَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اِفْشَعِرْ اِفْشَعِرْ اِفْشَعِرْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَفْشَعِرْ لَا تَفْشَعِرْ لَا تَفْشَعِرْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُفْشَعِرٌ

# ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی

ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی کی دو قسمیں ہیں۔

1- ملحق برباعی مجرد 2- ملحق برباعی مزید فیہ

ملحق برباعی مجرد کے 7 باب ہیں۔

الْبَابُ الْأَوَّلُ: فَعَلَّلَهُ جَلَبَةً

الْبَابُ الثَّانِي: فَعَنَلَهُ قَلْنَسَةً

الْبَابُ الثَّلَاثُ: فَوَعَلَهُ جَوْرَبَةً

الْبَابُ الرَّابِعُ: فَعُوَلَهُ سَرْوَلَةً

الْبَابُ الْخَامِسُ: فَيَعَلَهُ خَيْعَلَةً

الْبَابُ السَّادِسُ: فَعَيْلَهُ شَرِيفَةً

الْبَابُ السَّابِعُ: فَعَلَاةً قَلْسَاةً

# الْبَابُ الْأَوَّلُ: فَعْلَلَةٌ

## صرف صغير

جَلَبَبَةٌ (چادر پہننا)

جَلَبَبٌ يُجَلَبِبُ جَلَبَبَةً فَهُوَ مُجَلَبِبٌ

جَلَبَبٌ يُجَلَبِبُ جَلَبَبَةً فَذَاكَ مُجَلَبِبٌ

لَمْ يُجَلَبِبْ لَمْ يُجَلَبِبْ لَا يُجَلَبِبُ لَا يُجَلَبِبُ

لَنْ يُجَلَبِبَ لَنْ يُجَلَبِبَ

لِيُجَلَبِبَنَّ لِيُجَلَبِبَنَّ لِيُجَلَبِبَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ جَلَبِبْ لِتَجَلَبِبْ لِجَلَبِبْ لِجَلَبِبْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَجَلَبِبْ لَا تَجَلَبِبْ

لَا يُجَلَبِبُ لَا يُجَلَبِبُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُجَلَبِبٌ

# الْبَابُ الثَّانِيُ : فَعْنَلَةٌ

## صرف صغير

قَلْنَسَةٌ (كَلَاهُ بِهِنَّ)

قَلْنَسٌ يُقَلِّنِسُ قَلْنَسَةً فَهُوَ مُقَلِّنِسٌ

قَلْنَسٌ يُقَلِّنِسُ قَلْنَسَةً فَذَاكَ مُقَلِّنِسٌ

لَمْ يُقَلِّنِسْ لَمْ يُقَلِّنِسْ لَا يُقَلِّنِسُ لَا يُقَلِّنِسُ

لَنْ يُقَلِّنِسَ لَنْ يُقَلِّنِسَ

لِيُقَلِّنِسَنَّ لِيُقَلِّنِسَنَّ لِيُقَلِّنِسَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ قَلْنَسٌ لِقَلْنَسٍ لِيُقَلِّنِسُ لِيُقَلِّنِسُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَقَلِّنِسُ لَا تَقَلِّنِسُ

لَا يُقَلِّنِسُ لَا يُقَلِّنِسُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُقَلِّنِسٌ



# الْبَابُ الثَّلَاثُ: فَوْ عَلَّةٌ

## صرف صغير

جَوْرَبَةٌ (جراب پهننا)

جَوْرَبٌ يُجَوْرِبُ جَوْرَبَةً فَهُوَ مُجَوْرِبٌ

جَوْرَبٌ يُجَوْرِبُ جَوْرَبَةً فَذَاكَ مُجَوْرِبٌ

لَمْ يُجَوْرِبْ لَمْ يُجَوْرِبْ لَا يُجَوْرِبُ لَا يُجَوْرِبُ

لَنْ يُجَوْرِبَ لَنْ يُجَوْرِبَ

لِيُجَوْرِبَنَّ لِيُجَوْرِبَنَّ لِيُجَوْرِبَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ جَوْرِبْ لِتَجَوْرِبْ لِيُجَوْرِبْ لِيُجَوْرِبْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَجَوْرِبْ لَا تَجَوْرِبْ

لَا يُجَوْرِبُ لَا يُجَوْرِبُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُجَوْرِبٌ

# الْبَابُ الرَّابِعُ : فَعْوَلَةٌ

## صرف صغير

سَرْوَلَةٌ (شلوار پہننا)

سَرُوْلٌ يُسَرُوْلُ سَرْوَلَةً فَهُوَ مُسَرُوْلٌ

سُرُوْلٌ يُسَرُوْلُ سَرْوَلَةً فَذَاكَ مُسَرُوْلٌ

لَمْ يُسَرُوْلْ لَمْ يُسَرُوْلْ لَا يُسَرُوْلُ لَا يُسَرُوْلُ

لَنْ يُسَرُوْلَ لَنْ يُسَرُوْلَ

لَيْسَرُوْلَنَّ لَيْسَرُوْلَنَّ لَيْسَرُوْلَنَّ لَيْسَرُوْلَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ سَرُوْلٌ لِتَسَرُوْلَ لَيْسَرُوْلُ لَيْسَرُوْلُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تُسَرُوْلُ لَا تُسَرُوْلُ

لَا يُسَرُوْلُ لَا يُسَرُوْلُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُسَرُوْلٌ

# الْبَابُ الْخَامِسُ: فَيَعْلَةُ

## صرف صغير

خَيْعَلَةٌ (بغير آستين کے قمیص پہنانا)

خَيْعَلٌ يُخَيْعِلُ خَيْعَلَةً فَهُوَ مُخَيْعِلٌ

خَوْعِلٌ يُخَيْعِلُ خَيْعَلَةً فَذَآكُ مُخَيْعِلٌ

لَمْ يُخَيْعِلْ لَمْ يُخَيْعِلْ لَا يُخَيْعِلُ لَا يُخَيْعِلُ

لَنْ يُخَيْعِلَ لَنْ يُخَيْعِلَ

لِيُخَيْعِلَنَّ لِيُخَيْعِلَنَّ لِيُخَيْعِلَنَّ لِيُخَيْعِلَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ خَيْعِلْ لِتُخَيْعِلَ لِيُخَيْعِلَ لِيُخَيْعِلَ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تُخَيْعِلُ لَا تُخَيْعِلُ

لَا يُخَيْعِلُ لَا يُخَيْعِلُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُخَيْعِلٌ

# الْبَابُ السَّادِسُ: فَعِيلَةٌ

## صرف صغير

شَرِيفَةٌ (کھیت کے بڑھے ہوئے پتے کا ٹٹا)

شَرِيفٌ يَشْرِيفُ شَرِيفَةً فَهُوَ مُشْرِيفٌ

شَرِيفٌ يَشْرِيفُ شَرِيفَةً فَذَاكَ مُشْرِيفٌ

لَمْ يَشْرِيفْ لَمْ يَشْرِيفْ لَا يَشْرِيفُ لَا يَشْرِيفُ

لَنْ يَشْرِيفَ لَنْ يَشْرِيفَ

لِيَشْرِيفَنَّ لِيَشْرِيفَنَّ لِيَشْرِيفَنَّ لِيَشْرِيفَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ شَرِيفٌ لِتَشْرِيفُ لِيَشْرِيفُ لِيَشْرِيفُ

وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُشْرِيفُ لَا تُشْرِيفُ

لَا يَشْرِيفُ لَا يَشْرِيفُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُشْرِيفٌ

# الْبَابُ السَّابِعُ: فَعْلَاةٌ

## صرف صغير

قُلْسَاةٌ (كلاه بهننا)

قُلْسِي يُقْلِسِي قُلْسَاةً فَهُوَ مُقْلِسٌ

قُلْسِي يُقْلِسِي قُلْسَاةً فَذَاكَ مُقْلِسِي

لَمْ يُقْلِسْ لَمْ يُقْلَسْ لَا يُقْلِسِي لَا يُقْلَسِي

لَنْ يُقْلِسِي لَنْ يُقْلَسِي

لِيُقْلِسِينَ لِيُقْلَسِينَ لِيُقْلِسِينَ لِيُقْلَسِينَ

الْأَمْرُ مِنْهُ قُلْسِ لَتُقْلَسَ لِيُقْلَسَ لِيُقْلَسَ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تُقْلَسِ لَا تُقْلَسِ لَا تُقْلَسِ

لَا يُقْلَسِ لَا يُقْلَسِ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُقْلِسِي

# ثلاثی مزید فیہ

## ملحق برباعی تدخرج

ملحق برباعی مزید فیہ کی دو قسمیں ہیں۔

1۔ مُلْحَقٌ بِهِ تَدْحُرَجُ

2۔ مُلْحَقٌ بِهِ اِحْرَنْجَمَ

مُلْحَقٌ بِهِ تَدْحُرَجُ کے 8 باب ہیں۔

الباب الاول: تَفَعَّلُ تَجَلَّبُ

الباب الثاني: تَفَعَّلُ تَقَلَّنَسُ

الباب الثالث: تَمَفَّعَلُ تَمَسْكُنُ

الباب الرابع: تَفَعَّلُ تَعْفَرُ

الباب الخامس: تَفَوَّعَلُ تَجَوَّرُبُ

الباب السادس: تَفَعَّوَلُ تَسْرُوَلُ

الباب السابع: تَفَعَّلُ تَخَيَّعَلُ

الباب الثامن: تَفَعَّلُ (تَفَعَّلُ) تَقَلَّسِي

# الْبَابُ الْأَوَّلُ: تَفَعَّلُ

## صرف صغير

تَجَلَّبُ (چادر پہننا)

تَجَلَّبَ يَتَجَلَّبُ تَجَلَّبًا فَهُوَ مُتَجَلَّبٌ

لَمْ يَتَجَلَّبْ لَا يَتَجَلَّبُ لَنْ يَتَجَلَّبَ

لَيَتَجَلَّبَنَّ لَيَتَجَلَّبَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ تَجَلَّبْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَجَلَّبْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُتَجَلَّبٌ

# الْبَابُ الثَّانِي: تَفَعَّلُ

## صرف صغير

تَقَلَّنَسُ (كَلَاهِ بِهِنَا)

قَلَّنَسَ يُقَلَّنِسُ قَلَّنَسَةً فَهُوَ مُقَلَّنَسٌ

قَلَّنَسَ يُقَلَّنِسُ قَلَّنَسَةً فَذَاكَ مُقَلَّنَسٌ

لَمْ يُقَلَّنِسْ لَمْ يُقَلَّنَسْ لَا يُقَلَّنِسُ لَا يُقَلَّنَسُ

لَنْ يُقَلَّنِسَ لَنْ يُقَلَّنَسَ

لِيُقَلَّنِسَنَّ لِيُقَلَّنَسَنَّ لِيُقَلَّنِسَنَّ لِيُقَلَّنَسَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ قَلَّنَسْ لِقَلَّنَسْ لِيُقَلَّنِسْ لِيُقَلَّنَسْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَقَلَّنِسْ لَا تَقَلَّنَسْ

لَا يُقَلَّنِسْ لَا يُقَلَّنَسْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُقَلَّنَسٌ



# الْبَابُ الثَّلَاثُ: تَمَفْعُلٌ<sup>٢٨</sup>

صرف صغير

تَمَسْكُنُ<sup>٢٩</sup> (مسكين هونا)

تَمَسْكُنُ يَتَمَسْكُنُ تَمَسْكُنًا فَهَوُ مَتَمَسْكُنُ<sup>٣٠</sup>

لَمْ يَتَمَسْكُنْ لَا يَتَمَسْكُنُ لَنْ يَتَمَسْكُنَ

لِيَتَمَسْكُنَنَّ لِيَتَمَسْكُنَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ تَمَسْكُنْ لِيَتَمَسْكُنْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَمَسْكُنْ لَا يَتَمَسْكُنْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مَتَمَسْكُنُ<sup>٣١</sup>

# الْبَابُ الرَّابِعُ: تَفَعَّلْتُ

صرف صغير

تَعَفَّرْتُ (خبِيثٌ هُونًا)

تَعَفَّرْتُ يَتَعَفَّرُ تَعَفَّرْتُ فَهَوَ مُتَعَفِّرٌ

لَمْ يَتَعَفَّرْتُ لَا يَتَعَفَّرُ لَنْ يَتَعَفَّرَ

لِيَتَعَفَّرَنَّ لِيَتَعَفَّرَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ تَعَفَّرْتُ لِيَتَعَفَّرَ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَتَعَفَّرُ لَا يَتَعَفَّرُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُتَعَفِّرٌ

# الْبَابُ الْخَامِسُ: تَفْوَعُلٌ<sup>٢٤</sup>

## صرف صغير

تَجَوَّرُبُ (جراب پهننا)

تَجَوَّرَبُ يَتَجَوَّرَبُ تَجَوَّرَبًا فَهُوَ مُتَجَوَّرَبٌ

لَمْ يَتَجَوَّرَبْ لَّا يَتَجَوَّرَبُ لَنْ يَتَجَوَّرَبَ

لَيَتَجَوَّرَبَنَّ لَيَتَجَوَّرَبَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ تَجَوَّرَبْ لِيَتَجَوَّرَبْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَّا تَجَوَّرَبْ لَّا يَتَجَوَّرَبْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُتَجَوَّرَبٌ

# الْبَابُ السَّادِسُ: تَفْعُولٌ

صرف صغير

تَسْرُوْلُ (شلوار پہننا)

تَسْرُوْلٌ يَتَسْرُوْلُ تَسْرُوْلًا فَهُوَ مُتَسْرُوْلٌ

لَمْ يَتَسْرُوْلْ لَا يَتَسْرُوْلُ لَنْ يَتَسْرُوْلَ

لَيَتَسْرُوْلَنَّ لَيَتَسْرُوْلَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ تَسْرُوْلٌ لَيَتَسْرُوْلُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَسْرُوْلُ لَا يَتَسْرُوْلُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُتَسْرُوْلٌ

# الْبَابُ السَّابِعُ: تَفِيْعُلُ

## صرف صغير

تَخِيْعُلُ (آستين کے بغیر قمیص پہننا)

تَخِيْعَلُ يَتَخِيْعَلُ تَخِيْعَلًا فَهُوَ مُتَخِيْعَلٌ

لَمْ يَتَخِيْعَلْ لَا يَتَخِيْعَلُ لَنْ يَتَخِيْعَلْ

لِيَتَخِيْعَلَنَّ لِيَتَخِيْعَلَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ تَخِيْعَلْ لِيَتَخِيْعَلْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَتَخِيْعَلْ لَا يَتَخِيْعَلْ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُتَخِيْعَلٌ

# الْبَابُ الثَّامِنُ: تَفَعَّلِ

## صرف صغير

تَقَلَّسِيُ (كلاه پہننا)

تَقَلَّسِي يَتَقَلَّسِي تَقَلَّسِيًا فَهُوَ مُتَقَلَّسٌ

لَمْ يَتَقَلَّسَ لَا يَتَقَلَّسِي لَنْ يَتَقَلَّسِيَ

لَيَتَقَلَّسِينَ لَيَتَقَلَّسِينَ

الْأَمْرُ مِنْهُ تَقَلَّسَ لَيَتَقَلَّسَ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَقَلَّسَ لَا يَتَقَلَّسَ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُتَقَلَّسًا

# فعل ثلاثی مزید فیہ

## (مُلْحَقُ بِهِ اِحْرَنْجَمَ)

ملحق برباعی مزید فیہ کی دو قسمیں ہیں۔

1۔ مُلْحَقُ بِهِ تَدْحُرَجُ

2۔ مُلْحَقُ بِهِ اِحْرَنْجَمَ

مُلْحَقُ بِهِ تَدْحُرَجُ کے 8 باب ہیں۔ ان کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

مُلْحَقُ بِهِ اِحْرَنْجَمَ کے 2 باب ہیں۔

الباب الاول: اِفْعِنَلَّ

اِفْعِنَسَّسَ

الباب الثانی: اِفْعِنَلَّ

اِسْلِنَقَّ

# البَابُ الْأَوَّلُ : اِفْعِنَالٌ

## صرف صغير

اِعْرَنْكَأُ (بالون كاسياه هونا)

اِعْرَنْكَأَ يَعْْرَنْكَأُ فَهُوَ مُعْرَنْكَأٌ

لَمْ يَعْْرَنْكَأْ لَا يَعْْرَنْكَأُ لَنْ يَعْْرَنْكَأُ

لِيَعْْرَنْكَأَنَّ لِيَعْْرَنْكَأَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ اِعْرَنْكَأْ لِيَعْْرَنْكَأُ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَعْْرَنْكَأْ لَا يَعْْرَنْكَأُ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُعْرَنْكَأٌ



# البَابُ الثَّانِي: اِفْعِنَاءٌ

## صرف صغير

اِسْلِنَاءٌ (چت لیٹنا)

اِسْلَنْقِي يَسْلَنْقِي اِسْلِنَاءٌ فَهُوَ مُسْلَنْقٍ

لَمْ يَسْلَنْقِ لَا يَسْلَنْقِي لَنْ يَسْلَنْقِيَ

الْأَمْرُ مِنْهُ اِسْلَنْقِ لِيَسْلَنْقِ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ لَا تَسْلَنْقِ لَا يَسْلَنْقِ

الظَّرْفُ مِنْهُ مُسْلَنْقٍ

# ہفت اقسام

## حروف علت

یہ تین ہیں۔ و، ا، ی۔

## حروف صحیح

اوپر والے تین حروف کے علاوہ باقی سب حروف صحیح ہیں۔

کسی کلمہ کے حروفِ اصلی صحیح ہونے یا صحیح نہ ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے اسے **ہفت اقسام** کہتے ہیں۔

## صحیح

یہ وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلی میں نہ تو کوئی حرفِ علت ہو، نہ کوئی حرفِ ہمزہ ہو اور نہ ہی ایک جنس کے دو حروف ہوں۔

نَصْرٌ (مدد کرنا)، فَتْحٌ (کھولنا)، حَمْدٌ (تعریف کرنا)، كَسْرٌ (توڑنا)

## مقصور

یہ وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلیہ میں سے کوئی حرفِ ہمزہ ہو۔

اس کی تین قسمیں ہیں۔

## مهموز الفاء

یہ وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلیہ میں سے فاء کلمہ حرفِ همزہ ہو۔  
 اَمْرٌ (حکم دینا) ، اَخَذَ (پکڑنا) ، اَجْرٌ (اجر) ، اِفْكٌ (جھوٹ)

## مهموز العين

یہ وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلیہ میں سے عین کلمہ حرفِ همزہ ہو۔  
 رَأْسٌ (سر) ، ذُنْبٌ (بھیڑیا) ،

## مهموز اللام

یہ وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلیہ میں سے لام کلمہ حرفِ همزہ ہو۔

## مضاعف

یہ وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلیہ میں سے دو حروفِ ایک جنس کے ہوں۔  
 اس کی دو قسمیں ہیں۔

## مضاعف ثلاثی

یہ وہ کلمہ ہے جس کا فاء اور لام یا فاء اور عین یا عین اور لام ایک جنس کے ہوں۔

## مضاعف رباعی

یہ وہ کلمہ ہے جس کا فاء اور پہلا لام ایک جنس سے ہو اور عین اور دوسرا لام ایک جنس سے ہو۔

## معتل بیک حرف

وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلیہ میں سے ایک حرفِ علت ہو۔  
اس کی تین قسمیں ہیں۔

### معتل الفاء

وہ کلمہ ہے جس کا فاء کلمہ حرفِ علت ہو۔

### مثال واوی

وہ کلمہ ہے جس کا فاء کلمہ حرفِ علت ہو۔

### مثال یائی

وہ کلمہ ہے جس کا فاء کلمہ حرفِ علت ہو۔

### معتل العین

وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرفِ علت ہو۔

## اجوف واوی

وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرفِ علتِ و ہو۔

## اجوف یائی

وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرفِ علتِ ی ہو۔

## معتل اللام

وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرفِ علت ہو۔

## ناقص واوی

وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرفِ علتِ و ہو۔

## ناقص یائی

وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرفِ علتِ ی ہو۔

## معتل بدو حرف

وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلیہ میں سے دو حروفِ علت ہوں۔

اسے لفیف بھی کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

## لفيف مقرون

وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلیہ میں سے دونوں حروف میں فاصلہ نہ ہو۔ یعنی فاء کلمہ اور عین کلمہ حرفِ علت ہو یا عین کلمہ اور لام کلمہ حرفِ علت ہو۔

## لفيف مفروق

وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلیہ میں سے دونوں حروف میں فاصلہ ہو۔

اس تقسیم کے مطابق کلمہ کی بنیادی طور پر سات اقسام بنتی ہیں۔ اس لئے ان کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ یہ ساتوں اقسام اس شہر میں اکٹھی ہیں۔

صحيح است و مثال است و مضاعف

لفيف و ناقص و مهموز و اجوف

# فوائد

## الف

یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اس کے ادا کرنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا۔ یہ نہایت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔

## همزة

یہ بھی صورت میں الف کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کبھی ساکن ہوتا ہے ہے کبھی متحرک ہوتا ہے۔ اس کے ادا کرنے میں زبان کو جھٹکا دینا پڑتا ہے۔

## مدہ

حرفِ علت جب ساکن ہو اور اس کے ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو تو اسے مدہ کہتے ہیں۔

يَقُولُ مِيس و مدہ ہرے۔

يَبِيعُ مِيسِ ي مدہ ہرے۔

## لين

حرفِ علت جب ساکن ہو اور اس کے ما قبل کی حرکت اس کے موافق نہ ہو تو اسے لین کہتے ہیں۔

يُؤنَّ في و لين ہے  
 مسلمين ميں ي لين ہے۔

## حذف

حرفِ علت کے گرانے کو حذف کہتے ہیں۔

يَزِمِي پر لَم آنے سے لَم يَزِمِ

## ابدال

ايك حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔

## اسكان

كسي حرف سے حرکت کے گرا دینے کو اسكان کہتے ہیں

## ادغام

ايك جنس کے دو حرفوں کو ايک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔



## محموز کے قواعد

ہمزہ ساکنہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرفِ علت سے بدلنا جائز ہے۔

رَأْسٌ کو رَأْسٌ پڑھنا جائز ہے۔

ذَيْبٌ کو ذَيْبٌ پڑھنا جائز ہے۔

بُؤْسٌ کو بُؤْسٌ پڑھنا جائز ہے۔

ہمزہ ساکنہ کو ماقبل ہمزہ کی حرکت کے موافق حرفِ علت سے بدلنا واجب ہے۔

أَمِنَ کو أَمِنَ پڑھنا واجب ہے۔

أَمِنَ کو أَوْمِنَ پڑھنا واجب ہے۔

إِمَانٌ کو إِيْمَانٌ پڑھنا واجب ہے۔

ہمزہ مفتوحہ سے پہلے اگر حرف ساکن ہو تو ہمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر ہمزہ کو حذف

کرنا جائز ہے۔

يَسْتَلُّ کو يَسْتَلُّ پڑھنا جائز ہے۔

ہمزہ مفتوحہ کا ماقبل اگر مضموم ہو تو ہمزہ کو دے سے بدلنا جائز ہے۔

ہمزہ مفتوحہ کا ماقبل اگر مکسور ہو تو ہمزہ کو ی سے بدلنا جائز ہے۔

سُؤَالٌ کو سُؤَالٌ پڑھنا جائز ہے۔

مِئْرٌ کو مِئْرٌ پڑھنا جائز ہے۔

# مقصور الفاء (نَصَرَ يَنْصُرُ)

## صرف صغير

أَمْرِيَّأَمْرًا فَعُوْا أَمْرًا

وَأَمْرِيَّوَمْرًا فَذَاكَ مَأْمُورًا

لَمْ يَأْمُرْ لَمْ يَوْمَرْ لَا يَأْمُرْ لَا يَوْمَرْ

لَنْ يَأْمُرَ لَنْ يَوْمَرَ

لِيَأْمُرَنَّ لِيَوْمَرَنَّ لِيَأْمُرَنَّ لِيَوْمَرَنَّ

الْأَمْرُ مِنْهُ

مُرٌّ لَتَوْمَرْ لِيَأْمُرْ لِيَوْمَرْ

وَالنَّفْيُ عَنْهُ

لَا تَأْمُرْ لَا تَوْمَرْ لَا يَأْمُرْ لَا يَوْمَرْ

الظَّرْفُ مِنْهُ

مَحْسِبٌ مَحْسِبَانِ مَحَاسِبٌ وَ مَحْسِيبٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الصُّغْرَى

مِحْسَبٌ مِحْسَبَانِ مَحَاسِبٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْوُسْطَى

مِحْسَبَةٌ مِحْسَبَتَانِ مَحَاسِبٌ

وَالآلَةُ مِنْهُ الْكُبْرَى

مِحْسَابٌ مِحْسَابَانِ مَحَاسِيبٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَذَكَّرُ مِنْهُ

أَحْسَبُ أَحْسَبَانِ أَحْسَبُونَ أَحَاسِبٌ أَحْسِيبٌ

أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُوَنَّثُ مِنْهُ

حُسِبِي حُسِبِيَانِ حُسِبِيَاتٌ حُسِبٌ حُسَيْبِي

وَفِعْلُ التَّعْجِبِ مِنْهُ

مَا أَحْسَبَهُ وَ أَحْسِبُ بِهِ

